

Islaam.

Jubbande setta ko faati e Islaam, hono mbo ardi e Quraana e Sunna Annabiyanke.

Deftere himmunde soomnde anndingol jumangol ko faati e Islaam, honde fenñina ko buri himmude e asli hembo e tinndinooje e njoonndam hembo,tawa ko e tuugnaade e quraana e sunna annabiyanke, nde huccina ko e denndaangal hellifaabe juulbe e be ngonaa juulbe tawa ko demde mum en, e kala yonto e nokku, wondude e seertude ngonkaaji e alhaaluuji.

Konde deftere soomnde dallillaaji ummorde e quraana e sunna Annabiyanke o.

ح) جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات، 1445 هـ

باللغات ، جمعية خدمة المحتوى الإسلامي
الإسلام - نبذة موجزة عن الإسلام (مشملة على الأدلة) - فلائي.
/ جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات - ط.1 - الرياض ، 1445 هـ

132 ص ؛ 14 × 21 سم

ردمك: 978-603-8412-74-9

1445 / 14730

شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام


يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Tel: +966 50 244 7000

@ info@islamiccontent.org

Riyadh 13245- 2836

www.islamhouse.com



Islaam ko nelal Alla faade e denndaanga Aade en, ko kammba woni nelal Aliiyankeewal genawal, timminngal nele Alliyankooje.

Islaam ko nelal Alla faade e Aade en fof, Alla teddufo o wi*i:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]

(Min nuliraani ma si wonah e denndaangal aade en fof, fii ngonaa beltnoowo e jertinoowo, Kono ko buri heewde e yimbe hee ngnndah.) Saba*i 28 Alla daali:

﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾ [الأعراف: 158]

(wii eehey yimbe miin komi nelaado e mon tigi, onon fof.) Aaraaf: 158 Alla daali :

﴿يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 170]

(Eehey mon yimbe Nelaado addanii mon goongo ummorde e Joom mon, ndeen noon ngondine ko dum buri wonde jam mon, si on njeddii ngannde na woodani Alla ko woni e kammuuji e leydi, Alla woniino O seeraani wonde gannda fiteefudo.) Annisaa*i (170) Islaam woni nelal Alliyankeewal luttungal, ko kanngal woni timmorgal nule Joomiraado, Alla Toowdo wi*i:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]

(Muhammadu wonaani baabiraado hay gooto e mon, ko woni ko O Nelaado Alla ko O tiimorde Annabaabe, Alla wonii te O seeraani wonde gannda kala huunde.) Al Ahjaab 40.

Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine Alla wonande yimbe fof.

Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine wonande yimbe fof, yamiroore adiinde ummornde e Quraana tedduda ko konngol Alla toowdo O:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥١﴾﴾ [البقرة:

[21

(Eehey mon yimbe ndewee Joom mon takdo on, e takdo adiibe mon, ngam kulon.) Simoore Bagara 21

Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

(Eehey mon yimbe kulee Joomi mon Oon takdo mon ummaade e fittaandu wooturu, O tagi ummaade e hendu dewel e gorel O saakti ummorde e mayru worbe heewbe e rewbe) Annisaa . 1.

Ummaade e Ibnu Umar yo weluyo Alla won e mum en wonde Nelaado Alla yo jam e kisal won e mum yeewtinii yimbe be ñande fathu Makka, o wi*i:

(Eehey mon yimbe Alla ittani on wasaade majjiyankoobe e mawnakiranaade baabiraabe mum en yimbe ko worbe dido:diigufo

teddufo to Alla,e faajir kiitaado koyfo to Alla, yimbe ko bibbe Aadama,te Alla tagirii Aadama ko leydi,) Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

(Eehey mon yimbe mi tagii mon yimbe e jinneeji mi wadii on kille e leyyi ngam nganndandiron, pellet buri teddude e mon to Alla ko burdo hulde Alla, pellet Alla ko ganndo tigi ko kumpatiido.) (Hujuraati 13)

Ko Tirmidhi fillii mo.

A tawatah e jamirooje Quraano teddufo o, wolla jamirooje Nelaado teddufo O sariya keertinaado yimbe e hinnde sabu ndaarde guri leñol mum en.

Islaam woni nelal Alliyankeewal garngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiiibe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe.

Islaam woni nelal Alliyankeewal garngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiiibe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe, Alla daali :

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُجُورًا﴾ [النساء: 163]

(Min mbahyiima faade e ma hono no min mbahyi- rino faade e Nuuhu e Annabaabe caggal mum, min mbahyiima faade e Ibraahiima

e Ismaa*ila e Yaaquuba e Asbaati e lisa e Ayyuuba e Yuunus e Haaruuna e Suleymaa Min totti Daawuuda Jabuur) Annisaa (163)

O diine mbo Alla wahyii faade e Nulaado Muhammadu yo jam e kisal won e mum ko oon woni diine mbo Alla sariyani Annabaabe adiife O wasiyiibe mbo, Alla toowdo o O daaali :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ [الشورى: 13]

(O sariyaniima on diine, ko wasayii ko Nuuhu e ko O wahyii ko faade e maa e ko O wasayii ko Ibraahiima e Muusa e iisa, ko dum woni ndarnee diine wotee ceerte heen, mawnii e sirkube he ko noddatabe ko e mum, Alla na suboo mbo welaa refti O feewna faade e Makko oon tuuboowo.) Assuraa 13.

O diine mbo Alla wahyii faade e Nulaado men Muhammadu -yo jam e kisal won e makko- kombo goondindo defte Alliyankooje adiife hono Tawreeta e Injiila ko adii dende wayletee Alla toowdo O daaali :

﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [فاطر: 31]

(Komin mbahyii ko faade e Ma ummaraade e deftere nde, ko goonga goongindo ko woni ko e hakkunde juude makko, pellet Alla ko kumpatiido ko ji*oowo.) Faatiri 31

Annabaabbe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto, sariyaaji mabbe ko ceertudi.

Annabaabe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto, sariyaaji madbbe ko ceertudi Alla toowdo O daali:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتَانَكُمْ فَاسْتَشِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

(Min tellini e Ma deftere nde e goonga honde goongini ko woni e hakkunde juude mum e deftere, honde hiilndi e mum, ñaawir hakkunde mabbe ko Alla tellini ko wota a rew e belaaɗe mabbe gaa ko ari ko e Ma e goonga, gooto fof Min wadani mbo sariya e laawol, si Alla welanooma O waɗay on lenyol gootol, kono tan ko haa O jariboo on ndaɗandire e golle moyye, ko faade e Alla woni ruttorde Mon onon fof, O habra mon ko wonnodon luurude ko e mum.) Al Maa*ida 48

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: Ko Miin buri haandude yimbe be e lisa biy Mariyama e nder aduna e laakara, Annabaabe ko musibbe Neeniraabe ko seertube kono diine mum en ko goota. Ko Bukhaari habri mbo 3443.

Islaam noddata ko - ko hono no Annabaabe: Nuuhu,Ibraahiima, Muusa,Suleymaan,Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe- faade e Iimaan wonde Alla ko takdo guurnoowo baroowo, jeydo jeyal ko O jiiloowo fiyakuuji ko Kanko woni newiido jurmotoodo O.

Islaam noddata ko - ko hono no Annabaabe: Nuuhu, Ibraahiima, Muusa, Suleymaan, Dawuda Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe- faade e Iimaan wonde Alla ko takdo guurnoowo baroowo, jeydo jeyal ko O jiiloowo fiyakuuji ko Kanko woni newiido jurmotoodo O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُونَ وَعَمَّتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَلْ سَمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]

(Eehey mon yimbe ciftere neema Alla e dow mon, mbela na woodi tagdo mo wonah Alla arsinkoowo on ummorde e kammu e leydi, dewateedo alah si wonah Alla ko honno yiiltorto don.) Faatiri 3 Alla daali:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

(Ko hombo arsakinta on ummaade e kammu e leydi ko hombo jeyi nande e jiide e hombo yaltinta ko wuuri ummaade e ko maayi, o yaltina ko maayi ummaade wuuri O yiila fiyakuuji, mabe wii ko Alla mate on hulatah.)yuuni 31 . Alla daali:

﴿أَمَّنْ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]

(Ko hombo fuɗɗata tagu ngu refti O ruttangu ko hombo arsakinta mon ummorde e kammu e leydi mbela na woodi dewateedo gonndudo e Alla wii ngaddee daliilu mon si on laatiima goongube.) Annamli 64.

Denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en be neliraa ko noddude faade e dewal Alla kanko tan Alla toowdo O daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [النحل: 36]

(Goomdii Men imminii e kala mofte Nulaado, wonnde rewee Alla, wodditodon bewaydi din. Hino e mabbe on Mo Alla feewni, hino e mabbe kadi mo majjere nden jorji e mun. Yiilee ka leydi, ndaaron ko honno battane fennoobe ben wa'unoo.) Annahli 36. Alla daali:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبیاء: 25]

(Min nulaani ko adima hay Nulaado gooto si wonah Min mbahyii e Makko wonde pellet deweteedo alah si wonah Miin wadde ndewee kam.) Al Anbiyaa*i 25. Alla habri gaa e Nuuhu yo O his O Daali:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: 59]

(Eehey mon yimbe am ndewe Alla on ngalah Alla tanah makko Miin mbido hulani on lepte ñalngu manngu.) AL Araaf 59. Ibraahiima gido O -yo jam e kisal won e mum- hono no Alla habriiri nih, O maaki:

﴿وإبراهيمَ إذ قال لقومه اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

((Janto) kadi Ibraahiima, nde o wi'annoo yimbe makko ben: "Rewee Alla, hulon Mo; ko dum buri moyyannde on, si woni hidon anndi".) Al ankabuut 16. Saalihu -mo jam e kisal woni e mum- maaki hono no Alla habriiri e mum:

﴿وَالِى ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ فَدَجَاۗتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ ۗ فَذُرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف: 73]

(O wi*i onon yimbe am ndewee Alla on ngalah deweteedo tanah makko arii e mon ko laabti ummaade e Joom mon dum ko ngelooba njarla ko maande wonande mon aceeba hoba ñaama e leydi Alla he wotee memneebe bonannde lepte muusde nannga mon.) Al Aaraaf 73. Su*ybu -mo jam e kisal woni e mum- maaki hono no Alla habriiri e mum:

﴿وَالِى مَدْيَنَ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاۗءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلٰحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأعراف: 85]

(Eey mon yimbe am on ngalah deweteedo mbo wonah makko arii e mon ko banngi ummorde ka Joom mon timminee betu e peese wotee ustanee yimbe be gede mabbe woto on mbonnu e nder leydi he caggal ndendi feewnaa ko duu buri moyyannde on si on laatiima goondin be.) Al Aaraaf 85. Nde Alla adii haaldude e Muusa - yo jam e kisal won e mum- Alla ceniido O daa:

﴿وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ﴿١٤﴾﴾ [طه: 13-14]

(Mi subiimo Ma jenta ko wahyete daa ko.Ko Miin tigi woni Alla dewettfo alah si wonah Kam wadde darnu juulde ngam siftorde Mi.) Taaha 13-14. Alla daali hombo habra gaa e Muusa yo O his pellet kanko o mooliima e Alla O maaki:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [غافر: 27]

(Pellet miin mi mooliima Joom Am e Joom mon e kala mawnikiniido mo goondinaani ñande hasboore.) Gaafir .27. Alla habri gaa e Masiih yo O his O Daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَدَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: 51]

(Pellet, ko Allah woni Joomi am e Joomi mon. Rewee Mo. “Ko dum woni laawol feewungol ngol”.) Aali Imraan 51. Alla habri gaa e Masiih yo O his O Daali:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: 72]

(Eehey mon Banii Israa*iil ndewee Alla Joom Am e Joom mon pellet kala renndindo Mbo e godfo Alla harmina aljanna e dow makko moolorde mum ko jayngol tooñoobe ndañatah walladiibe.) Al Maa*ida 27. Accu boom hay Tawreet e Injiil arii e majje ko in tentina rewde Alla kanko tan, joli e Sifru Attasniya konngol Muusa yo kisal won e mum: (Nan Aan Israa*iil Joomiraawo deweedo men ko joomiraawo gooto)Arii kadi e Injiil Murqus tentinde Tawhiid, nde Masiihu maaki: (Ko adii e wasiyaaji hee woni: Nan aan Israa*iil Joomiraawo men dewateedo ko gooto). Alla O holliri wonde

denndaangal Annabaabe neliraa ko himme njano, ko oon woni noddude faade e Tawhiid Alla toowdo On Daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [النحل: 36]

(ko goongo Min nelii e kala mofta Nulaado wonde yobe ndew Alla be reentoo bewnooji ina e mum en be Alla feewni ina e mabbe be konngol majjere joggi.) Annahli 36. Toowdo On daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

(Maakanbe mbela be yi*i kobe noddata kon ko wonah Alla hollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodaniibe gfaal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii nde wolle batte ummrde e ganndal si on wonii goongube) Al Ahqaaf 4. Asseekh Assaadii (yo Alla hinno mo) wi'i: Anndaama wonde jeddi sirkube be e sirku mabbe fawaaki e hay daliilu gooto, kono be tuugnii ko sikkeeji penaale e miiijooji contuɗi, e hakkilaaji bondi, na hollu ma bonde rewindaande alhaaliiji mabbe e gannde e golle mabbe, e ndaarde gasnube nguurndam e rewde diin mbela nafiiibe(diin deweteedi ko woah Alla) huunde e aduna ma e laakara)? Taysiir Al Kariim Al mannaan :779

Alla Mbo senaare woodani toowdo On Kay woni tagdo kaandudo reweede O waasa reweede e hay gooto

Alla woni kaandudo e reweede kank tan, goddo haanaani reweede e makko, Alla daali :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ [البقرة: 21-22]

(Eehey mon yimbe ndewee Joom mon takdo on, takdo adiibe mon, ngam kulon. O wadando on leydi ndi ko mbertu O wadi kammu on mahdi O tellini ndiyam ummorde ka kammu O yaltini heen dimaade ngam wona arsuka mon wadde wotee mbafe Alla goreejo tawa hodon nganndi.) Al Baqara 22.21. Oon takdo men O tagi girle ngadiide men O wadani en leydi ko ndadfdudi O jippini e men ndiyam ummorde ka kammu O yaltinani en heen dimaade, ko kanko tan haani reweede Alla toowdo O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]

(Eehey mon yimbe ciftere neema Alla e dow mon, mbela na woodi tagdo mo wonah Alla arsinkinoowo on ummorde e kammu e leydi, dewateedo alah si wonah Alla ko honno yiiltorto don.) Faatiri 3. on tagoowo On O arsaqina, kanko tan haandi e reweede, Alla toowdo O daali:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: 102]

(Ko Oon Alla woni Joomi mon deweteedo alah e goongo si wonah Kanko, Ko Kanko woni tagdo kala huunde wadde ndewee Mbo Kanko de ko O defiido kala huunde). Al Anaam 102. Kala ko rewa ko wonah Alla dum haandaani e reweede, saba dum alah ko foti e gabbel jarra e nder kammuuji e ka leydi ndi, o renndaani e Alla hay huunde, o

wonah balladiijo, wadde hono on noddirte maa wadee ndendadiijo e Alla, Alla toowdo O daali:

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ﴾ (سبأ: 22)

(Wii noddee been be ngaayidon ko aldah e Alla be ngalah fotde gabbel jarra nder kammuuji e nder leydi be ngalah hedi gedal be e ngalah heen kadi cemmbinoowo.) Assaba*i 22. Ko Alla jom senaare toowdo O woni takdo tagaadi din O wootni di ummaade e baasal, woodeede diin na holla woodeede Mbo e toppitaade Mbo e Alliyankaawal Makko, O daali:

﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تانتشرون﴾ (سبأ: 22) ﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سبأ: 21) ﴿وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ السِّنِينَ وَالْوَنُكْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (سبأ: 20) ﴿وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (سبأ: 19) ﴿وَمِن آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (سبأ: 18) ﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (سبأ: 17) ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾ (سبأ: 16) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الرؤم: 20-27)

(Ina jeya aayeeje Mum tagrude mon e mbullaari refti ngontudon yimbe saaktatoobe. Ina jeyaa e aayeeje Makko nde O tagani mon e pittaali mon suddibe ngam ndeeyon e mum en O wadi hakkunde mon

gilli e yurmeende pellet wonii e duum maandeeji wonande miijotoobe 21. Ina jeyaa e aayeeje Makko tagde kammuuji e leydi e seertude demde mon e mbaadiiji mon pellet wonii e duum maandeeji wonande binnde de 22. Ina jeyaa e aayeeje Makko daanagol mon jemma e ñalawma e dabbude mon e bure Makko Ina e duum maandeeji wonande nanoobe 23. Ina jeyaa e kaawisaaji Makko nde O hollata mon maje wona kulol e damaaw e tellinde ndiyam ummorde e kammu O wuurtanira dam leydi caggal maayde ndi pellet wonii e duum maandeeji wonande hakkilbe 24. Ina jeyaa e aayeeje Makko nde kammu e leydi darato e yamiroore Makko, refti si O noddii mon noddadu ummorde e leydi ngonon e yaltooobe 25. Woodanii mbo wonbe e kammuuji e leydi kambe fof hobe njankananii Mbo 26. Ko Kanko fudfudata tagu refti O ruttangu ko duum buri newaade e Makko.) Arrum 20-27.

Namruude yeddi woodeede Alla, Ibraahiima mo jam e kisal woni hono no Alla habiriri:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَهِمَ فِي رِيِّهِ ۖ أَنۢ ءَاتَهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذۡ قَالَ إِبرَهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَهِمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالسَّمَسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 258]

(Ibraahiima wi*i pellet Alla na addira naange nge funnaange addirnge hirnaange, keefeero o muga Alla feewnatah tooñoobe .) Albaqara 258.

Ko hono noon kadi Ibraahiima dallinori e yimbe mum wonde ko Alla feewni mbo ñammini mbo yarni mbo si o ñawii safra mbo, ko Kanko warata mbo wuurna mbo, o wi*i no Alla habiriri e mum:

﴿الَّذِي خَلَقَ فَهُوَ يُهْدِي ۗ وَالَّذِي هُوَ يُضِلُّ فَهُوَ لَا يَهْدِي ۗ وَإِذَا مَرَضَتْ فُهِوَّ

يُشْفِي ۗ وَالَّذِي يُمَيِّتُ ثُمَّ يُحْيِي ۗ﴾ [الشعراء: 81-78]

(Oon tagdo mi, ko Kanko feewnata mi 78 . Ko Kanko ñamminatami O yarna 79 . Somi ñawii ko Kanko safratami 80 . Oon baroowo mi refti O wuurna mi 81) Assu*raa 78-81.

Alla daali Hombo habra gaa e Muusa yo o his wonde O tottii Fir*awna hujjo o wi*i:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50]

(Oon tottuɗo kala huunde tagu mayre refti o feewi.) Taaha 50.

Alla eelti denndaangal ko woni e kammuuji e leydi sabu nedɗo, O fiildi nedɗo o neemaaji, ngam o rewa Alla o waasa yeddude Mbo, Alla toowdo wi*i

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ

وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۗ﴾ [لقمان: 20]

(Mbela yi*aani ko Alla eeltani on ko woni e kammuuji e leydi O yuurti e mon neemaaji peeñdi e birniidi ina e yimbe he yeddandirteebe e fii Alla ko alda e ganndal wonah peewal wonah deftere jalbunde.) Luqmaan 20.

Hono no Alla eeltirani yimbe kala woni e nder kammuuji e leydi, Alla tagii-mbo O heblani mbo ko o hatajini e mum: nande, jiidde e bernde nde jangirta ganndal nafatngal mbo, ngal tinndina mbo kiliifa mum Takdo mbo O, Alla toowdo daali:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78]

(Ko Kanko woni jaltinddo mon e deedi yummiraa be mon tawi on nganndah hay huunde O waƙani on nande e jiide e berde ngam njetton Mbo.) Annahli 78.

Alla ceniido O, tagii denndaangal binnde de, O tagi Aade O heblani mbo kala o hatajini e mum gila e terde haa e cemmbe refti O okki mbo kala ko wallata mbo e ummaade e dewal Alla e wuurnude leydi, refti O eeltani mbo kala ko woni e nder kammuuji e leydi.

Alla hujjinori takgol makko dee tagaade mawde wonde ko Kanko wonii Joomiraawo haandufo e reweede Alla ceniido O daali:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

(Ko hombo arsakinta on ummaade e kammu e leydi ko hombo jeyi nande e jiide e hombo yaltinta ko wuuri ummaade e ko maayi, o yaltina ko maayi ummaade wuuri O yiila fiyakuuji, mabe wii ko Alla mate on hulatah.) yuunisi 31. Goonga ceniido O daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَتُنَادِي بِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

(Maakanbe mbela be yi*i kobe noddada kon ko wonah Alla hollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodaniibe gedal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii nde wollo batte ummorde e gandali si on wonii goongube) Al Ahqaaf 4. Alla daali toowfo O :

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾﴾ [القمان: 10-11]

(O tagi kammuuji ko alдах caldi di nji*aton O werlii e leydi hee pende haa ndi waasa dimmbude mon, O saakiti e mayri kala daabayel duugawel, O tellini ummorde e kammu ndiyam min pudniri dam kala mbaadi teddundi dum ko tagoore Alla kolle kam ko wobbe be tagi, accu tooñoobe hobe e majjere laabtunde.) Alluqmaan 10 -11. Goonga ceniido O daali:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الطور: 35-37]

(Mbela be taga ko alдах ndiga wolla ko kambe woni tagbe be. Wolla be tagu kammuuji e leydi? alah be njananaaka 33. Mbela hobe njogii moftirdi Joome On wolla ko kambe woni tehru be 37.) Attuur '35-37.

Asseekh Saadi wi*i:dum ko dallinoraade e dow mabbe huunde nde be mbaawatah si wonah jebbilanaade goongo ma be njalta hakkille wolla diine .Tafsiir Ibnu Saadii: 816.

Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he, ko yi*ato e ko yi*ataako, kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum, Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom.

Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he, ko yi*ato e ko yi*ataako, kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum, Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom.

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَّاحِدُ الْقَهْرُ﴾ [الرعد: 16]

(Wii hombo woni Jom kammuuji e leydi, wii ko Alla wii mbela on njogitoto mbo wonah Alla heedbe be ngalanah ko*e mabbe nafaore maa lor, Wii mbela gumdo e ji*owoo na pota wolla niwre e annoore na pota wolla be wadan Alla renndadiibe takbe hono tagu Makka ngun ko tagaa ko nanndi e mabbe Wii Ko Alla tagi kala huunde ko Kanko woni gooto pooloowo.) Arraadu 16.

Alla toowdo On daali:

﴿...وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]

(Hombo taga ko on nganndah.) Annahli 8.

Alla tagi kammuuji e leydi e nder balde jeegom O daali:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4]

(Ko kanko tagi kammuuji e leydi e nder balde jeegom refti foocci e Arsi Makko he, Hombo anndi ko jolata e leydi e ko yaltata e mayri e ko tellatoo ummaade kammu e ko yawata e mammba Hombo wondi e mon kala do wondon, Alla na yi*a ko golloton ko.) Al Hadiid 4. Alla daali:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: 38]

(Ko goonga Min tagii kammuuji di e leydi ndi e ko woni e hakkunde majji nder balde jeegom, te tampere hebaani Min heen.) Qaaf 38.

Alla Mbo senaare woodani toowdo O, O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagu Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e rewde Mbo.

Alla Mbo senaare woodani toowdo O, ko Kanko woni jom laamu O alah denndadiijo e tagu Mum he wolla e laamu mum he wolla e jiilgol Mum he, Alla toowdo O daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

أَتُنُونِي بِكُتُبٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

(Maakanbe mbela be yi*i kobe noddata kon ko wonah Alla hollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodanibe gedal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii dum woll batte ummrde e ganndal si on wonii goongube) Al Ahqaaf 4.

Asseekh Assaadii (yo Alla hinno mo) wi'i:(Ey: Wii bee do renndadinbe Alla e sanamji e goreebe be ngalah nafaore wolla lor be ngalah maayde, nguurndam wolla ummital ñalngu darnga, wiiibe : labbinanaabe ronkere sanamuuji mum en, di kaandaani hay huunde e rewede, (Kollee kam kobe tagi e leydi he wolla boom mbela na

woodaniɓe gedal e kammuuji he) mela ɓe tagii huunde e buurti kammuuji wolla e leydi? Mbela ɓe tagii montaanji wolla ɓe ndokni caatli? Mbela ɓe caaktii kulle wolla ɓe puɗni ledɗe ? Mbela ina e mum en balluɗo no huunde e ɗeen gede tagira ? hay huunde e ɗuum ɓe wadaani, wadde ɗum ko daliil hakkilleyanke tigi wonde rewde ko wonah Alla ko meere.Refti O jantii waasde daliil eggaɗo O daali: (Addenee Kam deftere adiinde ndee ɗo) deftere noddooɗe e sirku (Wolla batte ummrde e ganndal) donaaɗe e Nulaabe jamirooje ɗuum. Ina jeyaa ko anndaa wonde kobe ronkobe daliil ummaade e Nulaabe cemmbinoowo kobe noddata ko, ko ɗum wadi min pelliti wonde denndaangal Nulaabe noddii ko e wootadinde Joom mabbe e riiwde sirku ko ɗum ɓuri mawnude ko ittaa ko e mabbe.Tafsiiir Ibnu Saadii: 779. Alla jom senaare O woni jeyɗo laamu O alah denndadiija e laamum makko he, Alla toowɗo O daali:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]

(Wii: Aan Alla Aan woni jeyɗo laamu, haɗa totta laamu mbo mbelaɗa, haɗa doofa laamu e mbo mbelaɗa, teddina mbo mbelaɗa koynaa mbo mbelaɗa, ko e Junngo Ma moyyere woni, pellet ko A kattadoo kala huuunde.) Aali Imraan 26.

Alla toowɗo daali hombo labbina laamu timmungu na woodani Mbo ñalngu darngo:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

(ñalngu mbo ɓe njaltata hay huunde e mabbe wirnataaka Alla, hombo laamu woodani hannde ? Ko Alla bajjo pooloowo O.) Gaafir

16. Alla Mbo senaare woodani toowdo O, O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagu Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e rewde Mbo.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ

الذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]

(Wii: Denndaaangal jattooje ngoodaai Alla Mbo jogitaaki bid̄do te woodanaani Mbo denndadiija e laamu makko he, O alah keeda e koyeere mawnin Mbo mawningol.) Al Israa*i 111. Alla daali:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ

شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

(Mbo laamu kammuuji e leydi woodani, O jogitaaki bid̄do, O alah denndadiijo e laamu mum he, O tagi kala huunde O hoddari nde koddirgol.) Al Furqaan 2.

Ko kanko woni jeydo, mbo wonaa Mbo fof ko jeyaado, ko kanko woni tagudo mbo wonaa mbo woo ko tagaado, ko Kanko yiilata fiyakuuji mbo alhaali mum wa*i nih fof na haani rewede, rewde goddo goo ko ustaare hakkille e sirku bonnoowo aduna e laakara, Alla toowdo O daali:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَٰ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 135]

(Heeferbe mbi*i: ngonee yahuud en maa nasaara peewon, wi*u ngone e laawol Ibraahiima ngol ooñaaki faade e majjere ngol, O wonaana e sirkube.) Al Baqara 135. Alla daali:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

(Alah burdo moyyude diine wonannde oon jebbilido e yeesa Alla tawa hombo moyyi o rewi laawol Ibraahiima peewngol ngol ooñaaki e majjere, Alla jaggarii Ibraahiima Sehil.) Annisaa*i 125. Alla goongo bangini wonde kala dewdo ko wonah laawol Ibahiima mo jam e kisal woni e mum, o daayni hoore makko, Alla daali:

﴿وَمَنْ يَرْعَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]

(Alaa duurnotoodo (calotoodo) laawol Ibrahiima sonaa mbo fittaandu mum daayi nganndee Min cubiima mo e aduna kanko o jeyaa ko e moyyube to laakara.) Al Baqara 130.

Alla ceniido O, O jibinaani O jibinaaka O alah paso wolla nandadiijo.

Alla ceniido O,O jibinaani,O jibinaaka,O alah paso wolla nandadiijo
Alla ceniido daali.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۝۱﴾

﴿أَحَدٌ ۝﴾ [الإخلاص: 1-4]

(Wii Kank Alla ko O gooto 1. Alla ko paandorteedo. O jibinaani O jibinaaka 3 woodanaani Mbo hay pasa gooto 4.) Al Ikhlaas 1-4. Alla daali:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مریم:

[65]

(Jeydo kammuuji e leydi e ko woni hakkunde majji wadde ndewee Mbo muññita e dewal makko he mbela haɗa anndi tokoro wonande Mbo.) Maryam 65. Mbo goongo woni fiyaaku mum daali:

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ

فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]

(Takdo kammuuji e leydi O wadani on ummaade e ko*e mon suddiibe e ummorde e neemaraadi di nooneeji O hebbini mon e nder mum O alah nanndadiijo ko Kanko woni nanoowo ji*oowo.) Assuura 11.

Alla ceniido toowdo O, O tellataako e nder huunde, O banndintaako e nder huunde e tagu mum he .

Alla ceniido toowdo O tellataako e huunde O banndintaako e huunde e tagu Makko, O wondatah e huunde habe ngona gootum, sabu ko Alla woni tagdo , ko wonah Alla fof koka tagaa, ko Kanko woni keddatoodo mbo wonah Mbo fof koka gasata, kala huunde ko Kanko wonii laamdo e Jeydo, O tellataako e huunde e tagu mum he, huunde kadi e tagu mum he tellataa ko e jaati mum he kanko ceniido O? Alla mbo senaare woodani furi mawnude kala huunde, furi teddude, Alla toowdo O daali hombo yedda been aayiiibe wonde Alla telliima e Masiihu habe ngonti gootum :

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ

أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 17]

(Ko goongo yeddi been wiibe pellet ko Alla woni Masiihu Ibnu Maryama, wii hombo waawi e Alla huunde si O faalaama halkude Masiihu Ibnu Maryama e Neene makko e been wonbe nder leydi kambe fof? woodanii Alla laamu kammuuji e leydi e ko woni e hakkunde majji, hombo taga ko welaa Alla ko O kattandɔ kala huunde.) AL Maa*ida 17. Alla daali:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَلَيْهِمُ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قٰنِطُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾ [البقرة: 115-117]

(Woodanii Alla funnaange e hiraange, kala ɔo kuccitɔon ko toon woni Yeesa Alla pellet Alla ko O jaacɔo ganndo tigi 115. be wii Alla jogatiima biɔɔo senaare woodanii Mbo accu ko woodi ko woni na woodani Mbo ko woni e kammuuji e leydi kanji hodi njankinani Mbo 116. Takɔo kammuuji e leydi si O ɓaawii huunde O wi*ata tan ko wonde wona 117.) Al Baqaratu 115-117. Alla daali:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذًا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْسُقُ ۗ اَلْأَرْضُ وَتَحْزُرُ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا اٰتٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتٰىهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾ [مريم: 88-95]

(be wi*i Jurmatoɔo O jogitiima biɔɔo 88. Ko goongo on ngaddi huunde nefniinde 89. Kammuuji diin na ɔesa seekaade heen leydi ndi fetta montaanji di pukkoo jirbugol 90. Sabu nodditaadebe wonde Jurmotoɔo na jogii biɔɔo. 91. Haananaani Jurmotoɔo O nde jogotoo biɔɔo. Alah ko woni e kammuuji si wonah ara e na woni

maccudo Jurmatoodo O. O fiilti limoore mum en O limiɓe limgol Kambe fof mabe ngar e makko gooto gooto 95.) Maryama 88-95. Alla daali:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
[البقرة: 255]

(Alla, alaa reweteedoo si wanaa kanko, Wuurdo Niibudo. Nonje nanngataa Mo, wanaa kadi doyingol. ko Kanko Jeyi huunde ko woni ka kammuuli e huunde ko woni ka leydi. Ko hommbo woni on tefoowo ka Makko si wanaa e duɗayee Makko? Himo anndi ko woni yeeso mabbe, e ko woni baawo mabbe. Be hubindotaako huunde e Anndal Makko ngal si wanaa ko O Muuyi. Jullere Makko nden no yaaji buri kammuuli ɗin e danki ndin. Reenugol ɗi aaninaa Mo. Ko Kano woni Toowudo Mawdo On.) Al Baqara 255. Mbo fiyaaku mum woni nih, fiyaaku tagoore Makko wonri nih, hono O waawrata tellaade e gooto habe ngonta gootum? wollo O jogitoo biɗɗo? Walla O waddee e Alla godɗo?

Alla ceniido toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, ko dum wadi O nuli Nulaabe O jippini defte.

Alla Toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, sabu yurmeende mum jiyaabe Makko O nuli e mabbe Nulaabe O telli e mum en defte, haa O yaltinabe niɓe keefaraagu faade annoore tawhiid e peewal Alla Toowdo O wi*i:

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ

لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: 9]

(Ko Kanko tellinta e maccudo Makko aayeeje banngude ngam O yaltinabe nibebe faade e annoore pellet Alla ko endotoodo jurmotoodo.) Al Hadiid 9. Alla daali:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]

(Men Nuliraani ma si wanaa Yurmeende wonande winndire nden.) Al Anbiyaa 107. Alla yamiri Annabi Makko yo habru jiyaabe wonde ko kanko woni jaafatodo jurmotoodo Alla toowdo O daali :

﴿نَبِيٌّ عَبْدِي أَيُّ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49]

(Habru jiyaabe Am be ko Miin tigi woni jaafatodo jurmotoodo.) Al Hijri 49. E newuya makko e yurmeende makko, ko kanko woni kuncoowo lorra O tellina jam e dow jiyaabe Makko, Toowdo O daali:

﴿وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]

(Siko lor nanngii Ma alah kuncoowo mbo si wonah Kanko, si O faalaama e mah jam hay gooto waawah ruttude bural Makko ngal homba totta ngal mbo welaa e jiyaabe Makko ko Kanko woni jaafaatodo jurmotoodo.) Yuunus 107.

Ko Alla woni Joomiraado jurmotoodo, ko kanko googto haasbata tagu ngu Ñalngu darngo saango nde O umminibe e genaale mum en, gooto fof yobe ko golli ko lobbum maa ko boni, kala mo golli golle lobbe hombo goondini , woodanii mbo neema duumiido, oon gollufo ko boni woodanii lepte njane ka laakara.

Ko Alla woni Joomiraawo jurmotoodo, ko kanko tan haasbata tagu ngu Ñande darnga nde O umminibe e genaale mum en, O yoba gooto kala ko golli ko, mo golli ko lobbi hombo goonedfi woodanii mbo neema diimiida, mo yeddi golli ko boni noon woodanii mbo lepte njane Ñande darngo, na jeyaa e timmude nuudal cenii toowdo O e yurmeende Makko wonande tagu ngu, ko O laatini ko aduna ko galle golle O wadi galle dimmo to hasbeede e njobñddi ngonata, mo golli ko lobbi danya baraja, mo golli ko boni o bewi heba lepte bewre mum, dum na woodi e pittaali na njeddi dum, Alla noon darnii dallilaaji buy na tinndina wonde ummital ko goongo mbo alah jeddi, Alla daali:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا

لُمِحِيَ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ [فصلت: 39]

(Ina jeyaa aayeeje mum hada yi*a leydi ndi na hoyi, si O tellinii e mayri ndiyam ndi fuufa pudi, wadde Oon guurnitdo ndi, Ko guurnitoowo maaybe pellet kanko ko kattando kala huunde.) Fussilat 39. Alla daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنبَعِدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْتَبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾﴾ [الحج: 5]

(Eehey mon yimbe si on cikkatiima ummital pellet ko Minen tagi mon e leydi refti Min mbađi mon tobbere refti Min mbađi mon heddere refti Min mbađi mon husere timmunde tagu e nde timmaani tagu ngam Min bannginana on,Min ñiibna e ranngaaji ko Min kaaji haa e lajal kappaado refti Min njaltina mon suko refti njottadono satteende mon, ina e mon sankatoobe ina e mon ruttateebe e nguurndam burđam jaasde haa o waasa anndude caggal duum hay huunde,hada yi*a leydi ndi hondi woni maayndi so Min telliinii e mayri ndiyam ndi dilla ndi fuufa puđi ndi fudna teeltungel labangel.)
Al Hajju 5. Alla jantii e o aaya dallillaaji tati jaadudi e hakkille wonde ummital na woodi:

1- Alla tagri nedđo e gadanol ko leydi, sabu ko o tagri dum ko e leydi hollii wonde hombo waawi mbo ruttude e nguurndam nde o wonnoo e leydi.

2- Oon tagđo ummaade e tobbere nedđo bannduyanke, ko kattandó ruttude mbo faade e nguurndam caggal maayde.

3- Oon guurtinirdó leydi ndi tobo caggal dendi maayi hombo hattani wuurnude yimbe caggal maaygol mum en, ina e o aaya daliil njana e woodeede kaawis quraana , hono o aaya - te mbo wonah juutđo- dallillaaji tati jaadudi e hakkille e o fiyaaku.

Alla daali:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا

فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104]

(ñande Min cowi kammu o hono no defte cowrate, Min nduttat tagu ngu hono no Min puddirinoo ngu nih, ko fodoore e dow amen pellet ko Min wadoobe.) Al Anbiyaa 104. Alla daali:

﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [٧٨] ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 78-79]

(O fiyani Min misaal o yejjiti tagu mum, o wi*i hombo wuurtinta yi*e dappufe? Wii wuurnatade ko taknoode laawol gadanol Kanko ko O gannda tigi kala huunde.) Yaasiin 78. Alla daali:

﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَ السَّمَاءَ بَدَأَتْ﴾ [٧٧] ﴿رَفَعَ سَكَّهَا فَسَوَّاهَا﴾ [٧٨] ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

صُحُفَهَا﴾ [٧٩] ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [٨٠] ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [٨١] ﴿وَالْجِبَالَ

أَرْسَلَهَا﴾ [النازعات: 27-32]

(Mbela ko onon buri sattu tagu wollo ko kammu mbo O mahi on. 27. O banti mbildi hembo O fotndi mbo 28. O nibbadini jemma makko o O yaltini ñalawma makko jalbudo on.29 Caggal duum O werti leydi ndi 30. O yaltini e hendi ndiyam mayri e durngol mum 31. O tabatini tule de. 32.) Annaaji*aati 27-32.

Alla banngini wonde tagu aade buraani sattude e tagde kammu e leydi e ko woni e hakkunde majji, kattando tagde kammuuji e leydi ronkatak ruttude aade laawol dimmol.

Alla ceniido O tagrii Aadama e leydi O wafi l mum ina beydoo caggal makko, kambe fof poti to bange asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla.

Alla ceniido O tagrii Aada leydi O wafi genyol mum ina beydoo caggal makko, kambe fof poti to bange asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla. Alla toowdo O daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]

(Eehey mon yimbe pellet Min tagii mon ummaade e gorel e dewel Min mbaɗi mon leyyi e kille ngam nganndandiron, pellet buri teddude e mon ko burɗo hulde Alla pellet Alla ko gannda tigi ko O kompatiido.) Al Hujuraati 13. Alla daali:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: 11]

(Ko Alla tagiri on e mbulbulɗi, refti e tobbere (maniiyu), refti O wafi on nooneji. Dewel saawataa, ngel jibintah kadi si wanaa e ganndal Makko. guurnaado wuurnetaake duytetaake kadi e nguurndam makko, si wanaa no e deftere. Pellet, dum ko newanii dum Alla.) Faatiri 11. Alla daali:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُبُهًا وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَقَّىٰ مِن قَبْلٍ ۗ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [غافر: 67]

(Ko kanko tagi on ummaade e leydi refti O wadi on tobbere maniyyu refti O wadi on heddere rfti o O yaltini on e deedi yummiraabe mon ko on sukaadibe haa kellifedon cemmbinon caggal duum ngonton nayeebe, ina e mon sankatoobe ko adii, e haa njottodon e lajal kappangal mbela joo ndeentadon.) Gaafiri 67.

Alla Toowdo O daali hombo banngina wonde tagii Masih e yamiroore won, hono no O tagiri Aadama e leydi e yamiroore won, Toowdo O daali:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل

عمران: 59]

(Pellet, sifa lisaa ka Alla, ko wano Aadama; O tagirii mo e mbumbuldi, refti O daalani mo: "Laato!" o laatii.) Aali Imraan 59. Adinoomo janteede tonngoode (2) wonde Nulaado mo jam e kisal ngoni e mum hollarii wonde yimbe fof poti alah kobe burdi si wonah hulde Alla.

Kala jibinaado jibintee ko e neesu.

Kala jibinaado jibintee ko e neesu Alla toowdo daali:

﴿فَأَنفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

(Tabatin yeeso ma e diine mbo wooñaaki faade e majjere, tagu Alla mbo O tagri yimbe e dow mum, alah bayloowo tagu Alla ngu, ko duum woni diine peewdo loy kono ko buri heewde e yimbe nganndah .) (Arruum 30) Haniifa noon ko laawol Annabi Ibraahiima yo jam kisal won e dow mum:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123]

(Refti min mbahyii faade e Maa ya a rew laawol Ibraahiima ngol wuuraaki e majjere O jeyanooko e sikube.) Annahli 123. Be maaki kadi:Alah jibinteedo si wonah o jibinee e neesu baabiraabe makko mbada dum yahuud wolla nasraani maa majuusi, hono no dammuwol jibanirta timmungol mbela hodon tina e maggol jaddidgol ?.Refti Abuu Hurayrata wi*i yo welu Alla won e dow mum:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

الدِّينُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

(Tagu Alla ngu O takri yimbe e dow mum, alah bayloowo tagu Alla ngu, ko duum woni diine peewdo loy kono ko buri heewde e yimbe ngandah .) Arruum 30. Sahiih Bukhaari 4775.Be maaki kadi: Ko noon Joom am yamarii kam nde nganndinat mi on ko majjudon, ko O anndini mi hannde e o ñalwma : Kala ko okkumi maccudo Am ko ka dagii, pellet Mi tagii jiyaabe Am foocciibe kambe fof, seytaani arii e mum en yaltanibe diine mum en, mbo harmini e mum en ko daknan Mi be, mbo yamaribe yobe cirkid am e goddo be ko mi addanaanibe daliil e duum. Ko Muslim fillii mbo 2865.

Hay gooto e yimbe he jibidinteedo e goopol, ma o rona goopol goddo.

Hay gooto jibidintaake e goopol ma o rona goopol makko ngol tanaa makko, Alla habrii en wonde Adama mo jam e kisal ngoni e mum, nde O luutndii yamiroore Alliyankoore, O nyaami kanko e jom suudu makko e lekki he, O nimsi o tuubi, o torii Alla yaafaawuya, Alla lonngani mbo nde o haalata konngudi laabdi, o haali di, Alla jabani mbo tuubaabuya O daali:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [البقرة: 35-38]

(Min ndaali Aan Aadama hoddu e jom suudu ma aljanna ñaamon heen ko yaaji ko dakmi to weladon wotee badee kii lekki njeyedon e tooñoobe. Seytaane fergatibe o yaltanibe tobe ngonnoo e mum, Min daali telle, yogo e mon wona añbe wodobbbe be, woodanii on ñiibirde e leydi he e dakmitorde haa e yonto Aadama hebii ummaade e Joomi makko kongi O jabani mbo tuubuubuya, ko Kanko woni jaboowo cay tuubuubuya Jurmotoodo Min ndaali tellee onon fof si peewal arii ummorde e Amen kala dewdo peewalam kulol wonatah e dow mum en be wonah sunotoobe (38)) Albaqara (35-38) Nde Alla jabanno Aadama tuubuubuya, o seerti e bakkaat, refti geñol makko ronatah goopol makko ngol sabu ngol ittriima tuupgol, woni asli ko hay gooto roondotaako goopol godfo goo, Alla Toowdo O daali:

﴿قُلْ أَغْوَى اللَّهُ أُنْبَىٰ رَبِّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الأنعام: 164]

(Alah ko wonki faggitto si wonah ko e dow makki fawatee hay gooto roondotaako bakkat janano, refti ko to Am woni ruttorde mon Mi habra on ko luutratna don e nder mum.) Al An*aam 164. Alla daali:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء: 15]

(Mo feewii, haray pellet, ko hoore-makko o feewani mo majii kadi, haray pellet, ko o majji kon yantay e hoore-makko. Wonkii ronndotaako bone wokki goo. Men wonaali leptoobe, haa Men immina Nulaado.) Al Israa15. Alla daali:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلًا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: 18]

(Wonki roondotaaka bakkaat wonki goo, si teddafo noddi walleede e donngal makko, o roondantaake hay huunde e mum, hay si o wonno badiifo mbo, jeertinata ko huloobe Joomi mum en e mbirniindi be ndarni juulde, kala laabfo laabani ko hoore mum, ko ka Alla woni battane.) Faatir18.

Woni faandaare tagde aade en ko haa be ndewa; Alla tan:

Woni faandaare tageede aade en ko haa be ndewa Alla kankon tan Alla daali:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

(Mi tagaani yimbe e jinneeji si wonah yobe ndewa Am.) Ajjaariyaati 56.

Islaam teddinii aade -rewbe e worbe- O defanii mo denndaangal hakkeeji makko O wadi mbo naamnitteedo denndaangal ko o subii e golle e ko o firliitii, O roondi mbo naamniteede kala golle lerooje hoore makko maa wobbe.

Islaam teddinii aade- worbe e rewbe- Alla toowdo O tagi aade ngam o wona lomto Makko ka leydi O daali :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً...﴾ [البقرة: 30]

(Nde Jooma wi*i malaykaaji di ko Mi bafoowo lomto e leydi he.)
Al Baqara 30. Ngol teddingol ngol Alla teddini aade na renndini aade en fof, Alla daali:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰٓى

كٰثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾ [الإسراء: 70]

(Ko goongo Min teddinii bibbe Aadama Min roondiibe ka jeeri e ka maayo Min arsaqiniibe laabdi Min burnibe ko heewi e ko Min tagi ko burnugol.) Al Israa*i 70. Alla daali:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾ [التين: 4]

(Min tagii neddo e tagu burngu fooccaade.) Attiin 4. Alla hadii neddo o nde o wonata cukkuudo koydo wonande mbo o rewata on, wolla cukkateedo ma doftateedo mbo wonah Alla, Alla daali:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

وَلَوْ يَرَى الْاٰذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرُوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 165-166]

اَتَّبِعُوْا مِنَ الْاٰذِيْنَ اَتَّبَعُوْا وَرَاوُا الْعَذَابَ وَنَقَطَعْتْ بِهْمُ الْاَسْبَابَ﴾ [البقرة: 165-166]

(Ina e yimbe he jaggiroowo ko wonah Alla goreebe be yidabe hono no Alla yidirite, been goondinbe buri sattude gilli wonande Alla, si been tooñbe nji*ii ndebe yi*ata lepte wonde cemmbe fof woodani ko Alla ko noon kadi lepte Alla ko cattude, tuma nde hisnii been rewnoobe e bone been rewatenooobe, be nji*i lepte sababuuji tayi hakkunde mabbe.) Al Baqara 165-166. Alla toowdo daali hombo banngina alhaali rewoobe e reweteebe e meere ñalngu darngo :

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا اَنْحُنْ صَدَدْتَكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاَءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الْاَيْلِ وَالْتَهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُٓءَ اَنْدَادًا وَّاَسْرُوْا التَّدَاْمَةَ لَمَّا رَاُوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَعْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾﴾ [سبأ: 32-33]

(Mawnakininoobe mbi*ani lohnanoobe mbela ko minen paddii on gaa e peewal caggal nde ngal ari e mon, alah onon kay on ngonno bonbe be 32. Lohnanoobe be mbii mawninkinoobe be accu dum ko hodo jemma e ñalawma tuma nde njamiratna don min nde min njeddata Alla min cosana Mbo goreejo, be cuudi mimsa nde be njii lepte nde, Min wadi tonngi e daade heefareebe, mbela on njobete si wonah ko golludon. 33) Sabaa 32-33. Ina jeyaa e nuundal Alla ceniido toowdo ñande darnga nde O roondata noddooobe e imaamoobe majjinoobe be bakkatuuji mumen e bakkatuuji be be majjinta be ko aldah e ganndal, Alla toowdo O daali:

﴿لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضْلُوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِلَّا سَاَءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾﴾ [النحل: 25]

(Ngam be ndoondoo bakkatuuji mumen e bakkatuuji been be majjini ko aldah e ganndal, ee bonii kobe ngacci ko.) Annahli 25. Alla

defaniima aade denndaangal hakkeoji makko nder aduna e laakara, ko buri mawnude e hakkeoji di Islaam defanii aade mbo bannginidi wonande aade en ko: Hakke Alla e dow yimbe e hakke yimbe faade e Alla. Ummaade e Mu*aaj yo weluya Alla won e mum, o wii: Nulaado togganiino kam O maaki: (Aan Mu*aaj) mbiimi A nootaama e malal Ma, refti O maaki yeru mum laabi tati: (mbela ana anndi hakke Alla e dow jiyaabe?) Mbiimi alah, O maaki (hakke Alla e dow jiyaabe ko ndebe ndewata Mbo be mbaasa renndinde Mbo e hay huunde) refti O yahi waktu O maaki: (Aan Mu*aaj) Mbiimi A nootaama e malal, refti O maaki: (mbela ana anndi hakke jiyaabe e Alla, sibe gollii duum O waasabe leptude?) Sahiih Bukhaari 6840. Islaam defanii aade hakke diine makko goongo e besngu makko e jawdi makko e nguru makko. Be maaki kadi: Pellet Alla harmanii e mon yiyameeje mon e jawde mon e guri mon hono hurum ñdalawma mon o e lewru mon ndu e nder leydi mon ndi. Sahiih Bukhaari 6501. Nulaado yo jam e kisal won e mum bannganii e aadi mawdo e hajju baynagol mbo ko buri teemedere ujunere Sahaabi tawano, O fillii oo maana O teentani mbo nder ñalngu boruya (NAHRI) e hajju baynagol. Islaam fawii aade denndaangal ko o subii e golle e pirlitale mum, Alla daali:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ رَأْسِهِ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: 13]

(Kala neddo Min ñdiiɓnani mbo talkuru makko e daande makko, Min njaltinana ndu wonande mbo ñande darngo o tawa hondu wertaa, o wi*ee jannan hoore ma deftere ma, wonki ma yonii ma hannde kaasboowo.) Al Israa 13. Kala golle foti ko lobbe maa ko bonde Alla wadat de takkiide e golludo de o, de yawtataa mbo faade e tanaa makko, aade haasbirtaake golle goddo goo, Alla daali:

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْئِقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]

(Eehey maa aade pellet ko a tampoowo faade e Jooma tampugol, ma a hawru e Makko.) Al Insiqaaq 6. O daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

(Kala golludo ko moyyi, ko fii hoore-makko; kala kadi bonnudo, yantay e makko. Joomi maa siforaani wonnde, tooñoowo jeyaabe ben.) Fussilat 46. Islaam na roonda neddo responsablite kala golle lorioje mbo maa lorioje wobbe,Alla daali:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 111]

(Kala paggatiido bakkaat o faggatii mbo ko e dow hoore makko, Alla woniina te seeraani wonde ganndo ñeenyudo.) Annasisaa 111. Alla daali:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: 32]

(Ko duum wadi Min parli e Banii Israa*iil tigi tigi oon bardo fittaandu ko aldah e fittaando maa o wadi bonannde e leydi he, o wa*i ko e bardo yimbe bee fof, kala guurnudo ndu o wa*i kono guurnudo yimbe bee fof.) Al Maa*ida 32. 'Be maaki kadi: Fittaandu waretaake e tooñange si wonah wonah wona e biy Aaadama gadana o jogoo defaare e yiyam mum he, sabu ko kanko adii diidde laawol warno gol. Sahiih Muslim 5150.

Islaam na fotndi debba e gorka to bannge golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaaje.

Islaam na fotndi debba e gorka to bannge golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaaje, Alla Toowdo on daali:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ [النساء: 124]

(Kala golludo e golle moyye foti ko gorko wolla debbo hombo gomdini, ko been de naatata Aljanna be tooñetaake fotde gufel tamaro.) Annisaa 124. Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: 97]

(kala golludo e moyyi foti ko gorko wollo debbo te hombo goomdini, ma Min nguurnu mo nguurndam beldam Min yobabe njobdi mabbe burndi moyyude kobe golluno.) Annahli 97. Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْرُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ [غافر: 40]

(Kala baddo bonannde yobetaake si wonah yeru hende, kala golludo ko moyyi foti ko o gorko wollo ko debbo, been ngoni naatoobe Aljanna be ngarsiye heen ko aldah e hisaab.) Gaafir 40. Alla daali:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَلَّاعِينَ وَالْخَلَّاعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

وَالصَّامِينَ وَالصَّامِتِ وَالْحَلْفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: 35]

(Pellet juulbe worbe e juulbe rewbe e goondiibe worbe e goondinbe rewbe e yankaniibe worbe e yankaniibe rewbe e goondube worbe e goondube rewbe e muñbe worbe e muñbe rewbe e hulbe Alle worbe e hulbe Alla rewbe e sakkortoobe worbe e sakkortoobe rewbe e hooroobe worbe e hooroobe rewbe e reenoobe farjiiji mabbe worbe reenoobe farjiiji mabbe rewbe e jantatoobe Alla ko heewi tawa ko worbe e jantatoobe Alla ko heewi rawbe Alla heblaniibe yaafaawuya e njobdi mawndi .) Al Ahjaab 35.

Islaam teddini debba mbo teskii debba ko funeere gorko, mbo waddini gorko nafqade tawi hombo hattani, ko kanko kadi nafqata biyum debba e yumma makko, bidfo gorko nafqata yumma makko si o hellifaama o hattani, jom galle kadi fawaa nafqade jom suudu mum.

Islaam nanngiri rewbe ko funeebebe worbe. Be maaki kadi: Pellet rewbe ko funeebe worbe. Ko Tirmidhi fillii mo 133. Ina jeyaa ko islaam teddini ko debba, fawde nafaqe yumma e dow bidfo makko gorko si tawii hombo hattani. Be maaki kadi: Junngo tottoowo toowngo ko yummo tottata refti baaba refti bandiraawo debba refti bandindiraawo gorko refti burbe badaade burbe badaade. Ko Imaam Ahmad fillii mbo. Maa bannginde daraja jinnaabe ar e sakkitoore Alla e tayre (29) Ina jeyaa ko hollata islaam na teddini debba, kombo waddi ko nafaqe debba e dow jom galle makko tawii hombo hattani, Alla daali:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]

(Yo nafqu jom yaajeende ko o yaajnana ko, oon mbo yaajnanaako noon, yo o nafqu e ko Alla hokki mbo ko, Alla fawatah fittaandu konu hattantah, ma Alla addu newuya caggal satteende.) Attalaaq 7.

Gorko gooto naamninooma Nulaado yo jam e kisal won e dow makko: Hol ko woni haqqe debba e dow gorka? O wi*i: yo o ñammin mbo si o weelaama, o holtina mbo si o holi, woto o fiy yeesa makko woto o kaanin mbo. Ko Imaam Ahmad fillii mbo. Nulaado mo jam e kisal woni e mum maaki hombo hollita yogo e hakkeji rewbe e dow jom galleeji mum en. Na woodani suddiibe be e dow jom galleeji mum

en nafaqe maɓɓe e koltu mum en no moyyirta nih.Sahiih Muslim.Be maaki kadi:Yoni aade bakkaat nde yeebatoo mbo o foti wuurnude.Ko Imaam Ahmad fillii mbo.Khataabii wii:Konngol makka (mbo o wuurnata) faanda heen kombo nguuro mum fawii, maana mum: O wii cakkordo o: woto sakkor ko burtaani nguura galle ma ngam yiilaade baraaaje, si wonah noon dum wontat bakkat, si a yeebiimo yimbe galle ma.Ina jeyaa ko Islaam teddiniri ko debbo, ko fawde nguure biɗɗo debbo e dow baaba makko Alla daali:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... ﴾ [البقرة: 233]

(Jiknaabe na muynina biɓɓe mum en kitaale diɗi timmude, wonande faalaado timminde muynam, na fawii e dow jibinanaado o arsuka mum en e koltu mum en na moyyiri nih.) Al Baqara 233.

Alla hollitii wonde na fawii e dow baaba jibinanaado suko, ñamminde e holtinde mbo e mbaadi labaandi, Alla daali:

﴿...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... ﴾ [الطلاق: 6]

(Sikobe muyninanii mon totteebe njoyɓɗi mum en.) Attalaaq 6.

Alla fawi njobɗi muynam paykun e dow baaba sabu tinndinde wonde nafake suko ko e dow baaba fawii,foti ko suko debbo maa ko gorko, Hadiis aroowo o na tinndina fawaade nafaqe cuddiido e sukaabe mum e dow baaba.Ummaade e Aaysa yo welu Alla won e mum:Hindi wii Nulaado mo jam e kisal ngoni e mum: Abu Sufyaan ko gorko dawoowo tigi,mida hatajini nde yettatmi huunde e jawdi mum hee,O Maaki: yettu ko yon maa aan e sukaabe maa tawa ko mbaadi moyyiri. Ko Bukhaari fillii mbo.Nulaado tedduɗo o hollii bural

naƙuƙe sukaabe e banndiraabe rewbe, Nulaaɗo Alla yo o his wii: Oon guurnuɗo jiwbe ɗiɗo maa tato wolla banndiraabe mum en ɗiɗo, wolla tato, haa be maayi wolla o maayi o acci be, mami wondu e makko hono dii ɗiɗi: O jooƙi honndu makko jooƙru e hakkundeeru ndu. Assilsilatu Assahiiha 296.

Maayde wonaa kuubal duumingal, maayde ko eggude galle golle faade e galle njobdi, maayde na heba banndu e wonki, maayde wonki woni seerde ki e banndu, refti ki ruttoo e hendu caggal ummital, wonki ruttataaka e banndu woɗndu ki tummbittaake kadi e banndu woɗndu.

Maayde wonah gasgol duumingol, Alla daali:

﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11]

(Maaku na maayna on Malikul mawti oon keednaaɗo e mon refti koto Joomi mon nduttete ɗon.) Assajadah 11.

Maayde hebata ko banndu e wonki, maayde wonki woni seerde ndu e banndu he, refti ndu ruttoo e hendu caggal ummita ñande darngo, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]

(Alla Hombo wara pittaali saanga maayde majji yonti, ɗi maayaani e ɗoyɗi majji, O nannga ñaawanaa ndu maayde ndu O accita wonndu ndu haa e happu dottaɗo, ina e ɗuum kaawisaaji wonande miijatoobe.) Ajjumuri. Be maaki kadi: Pellet si wonki tamaama

ndaarde ndewa heen. Ko Muslim fillii mbo 920.Caggal maayde aade egga galle golle faade e galle njobdi, Alla daali:

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ وَيَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: 4]

(Ko e makko woni ruttorde mon onon fof, fodoore Alla ko goongo, pellet Hombo fuddo tagu refti O ruttangu haa O yoba been goondinbe refti be golli golle moyye e , been heeferbe woodaniibe njaram nguldam e lepte cattude sabu kobe yeddunoo ko.) Yuunis 4.

Wonki eggatah caggal maayde faade e banndu goo,ki tummbittaake, nodditaade tummbiteede wonkiji hakkille tinndinaani dum,te ko so*etee kadi tinndinaani dum,hay daliil gooto eggaado ummaade e Annabaabe yo jam won e mum en seedaaki nde fibnde.

Islaam noddata ko e iimaan tawa mbo fawii ko e tuogle iimaan mawde de, ko deen ngoni: goondinde Alla e Malaykaaji Makko e defte Alliyankooje dee, hono Tawreet, Injiil e Jabuur ko adi nde de mbaylatee nde, e Quraana e goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaabe e goondinde ñalngu cakkatiingu, heden anndi si nguurndam aduna wonna cakkatiidam maa nguurndam e goodal ngonatno fijirde banngunde, ko noon kadi no wadfii jabde hoddira e ñaawoore.

islaam na nodda faade e goondinde asleeji iimaan njani din, denndaangal Annabaabe Nulaabe yo kisal won e mum en noddii faade e diin, diin ngoni:

Gadanel: goondinde ko Alla woni Joomiraawo tagdo arsiqinoowo jiiloowo nde winndere, ko kanko tan haandi e reweede, rewde mbo wonah Kanko ko meere, haanaani reweede si wonah Alla, dewal sellatah si wonah sabu Makko. Dallillaaji hollirde o fiyaaku yawtii tonngoode 8.

Alla jantiima dii asliiji njani e nder aayeeje keewde ceertude nder Quraana tedduɗo o, Alla daali:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة: 285)

(Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.) Albaqara 285. Alla daali:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: 177)

(diggere firtaani nde kuccitinton jeece mon faade funnaange e hirnaange kono diggere woni goondinde Alla e ñalawma cakkatiido e malaykaaji e deftere e annabaabe o tottiri jawdi wondude ko o yidindi ko badiibe e alyatimeebe e miskineebe e datniibe e naamnatoobe e jiyaabe e darnoobe juulde e tottiroowo askal e huubnoobe aadi mum en sibe tottorii aadi e muñoobe saanga sattuende e lороoji e saanga bittere ko been ngoni hulbe ben.) Al Baqara (177)

Alla noddi faade e goondinde dii asliiji O holliti wonde kala jeddufo dii o majjii majjere wodfunde Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الّذِي نَزَّلَ عَلَي رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الّذِي
أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الّآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ [النساء: 136]

(Ono goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jeddufo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaabe Mum eñalawma cakkitiifo o majjii majjer wodfunde.) Anniss 136. Aarii e nder Hadiis ummaade e Umar Ibnul khattaab yo weluyo Alla won e makko, Nulaado maaki: Ñalnde goo meden joodinoo ka Nulaado Alla jam kise yo won e mum, tan yellitii e dow amen gorke jom comci, daneeji tal e sukundu baleeru kurum, batte datngal yi'otaako e makko, hay gooto e amen kadi andaa mo. O joodii takko Annabiijo on (yo o his), o jicci koppo makko ñin faade e koppo mabbe ñin, o fawi newe makko ñen e hoore buse makko ñen. O wi'i: Ko an yo Muhammadu, humpitam fii lisaamu. Nulaado Alla on mo jam e kisyye woni e mun on maaki: L'islaamu, ko nde seedoto-ɗaa reweteedo tanaa Allaahu alaa, e wonde ko e Makko Muhammadu nuli mo, ñiibinaa julde, tottaa askal, hooraa suumayee, hajjoyaa ka suudu hormanteeru si a hadtani e ñum laawol. O wi'i: A goongii [‘Omar, fillotoofo on hadiise on wi'i:] Men haawaa e oo, himo lamndoo Nulaado on o goongina be. [O lamnditii] o wi'i: Humpitam fii liimaanu (gomɗinal). Be maaki: “Ko nde gomɗintaa Alla, e Malaa’ika en Makko, e Defte Makko ñen, e Nulaabe Makko ñen, e Ñalaande Sakkitiinde nden, gomɗinaa kadi koddoruyee: ko moyyi e mun e ko boni e mun”. O wi'i: A goongii. [O lamnditii] o wi'i: Humpitam ko woni lihsaanu (moyyingol). Be maaki:

"Ko nde rewirtaa Alla wa si tawii hida reeni Mo. Si tawii non a reena Mo, anndu kan himo Reenu maa". [O lamnditii] o wi'i: Humpitam fii darngal. 'Be maaki: "Lamndaado on fii maggal wonaali burdo anndude lamndiido on". [O lamnditii] o wi'i: Humpitam fii maande maggal. 'Be maaki: "Ko nde kordo jibinta jeydo mo, e nde yi'ataa holunoobe [pade], holi [comci], aynaynoobe dammi hino burondira e toowugol mahdiiji". Refti o yehi. Mi ñiibi ko booyi, hooti Nulaado on maaki: "Ko an yo 'Omar, hida anndi ko homambo woni oo lamndiido?" Mi jaabii: ko Alla e Nulaado Makko on buri anndude. 'Be maaki: "Oo ko Jibriilu, o arii on himo anndina on diina mon". Sahiih Muslim 8. E o hadiis Jibriil arii e Nulaado Muhamadu yo o his, o naamnii Mbo martabaaji diine diin ngoni: Islaam, limaan e Ihsaan Nulaado jaabii mbo, refti Nulaado habri sahabaabe makko wonde ko o woni Jibriil o arii ngam anndinde mon diine mon, ko dum wini Islaam kamambo woni nelal Alliyankeewal ngal Jibriil eggii o yottini ngal Nulaado Muhamadu yo o his, wondiibe makko be ndeeni mbo be njottani mbo yimbe ben caggal makko.

2: Goondinde malaykaaji been kobe winndere wirniinde Alla tagiibe O wadiibe e mbaadi toddaandi, O fawibe golle njane, na jeyaa e majje yottinde nule Alliyankooje wonande Nulaabe e Annabaabe yo kisal won e mumen, ko Jiriil buri teddude e Malaykaaji he, na tinndina tellingol Jibriil wahyu e dow Nulaabe he konngol Alla:

﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾

[فَاتَّقُونَ ﴿٢﴾ النحل: 2]

(Hombo jippinira malaykaaji e Ruuhu e dow mbo O welaa e jiyaabe Makko, njeertinee wonde pellet alah deweteedo si wonah Miin ndeentee Kam.) Annahli 2. Alla daali:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٤﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

[الشعراء: 196-192] ﴿بَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولَىٰ ﴿١٩٦﴾﴾

(Kande pellet jippinaande ummorde to Jom binde 192. Jippininde ko Ruuhu koolaado On 193. E bernde ma ngam ngonaa e jeertinoobe. 194. E demngal arabiyankeewal laabngal.195. Honde woni e defte adiibe be. 196.) Assu*araa 192-196.

3: Goondinde defte Alliyankooje hono Tawreeta e Injiil e Jabuur-ko adii ndede mbaylete- e Quraana Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ ءَ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ءَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ [النساء: 136]

(Eehey mon goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jedduo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaado Mum e ñalawma cakkitiido o majjii majjer woddunde.) Anniss 136. Alla daali:

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلُ هَدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

[آل عمران: 4-3]

(O telliniri deftere nde e maa goongo honde goondini ko woni ko yeesa mayre O tellilini Tawreeta e Injiil (3). Ko adii konde peewal wonande aade en O tellini Furqaan, been yeddube aayeeje Alla de woodaniibe lepte cattude Alla ko pooludo jom jobtagol.) Aali Imraana 3-4. Alla daali:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

(Nulaado goondanii ko jippinaa ko e Makko ummade e Joom Makko, e goondinbe be fof be goondanii Alla e malaykaaji Makko e defte makko e Nulaabe makko, min ceerndatah hay gooto e Nulaabe makko, be wii min nanii min doftiima hafran amen Joomi amen ko Mah woni ruttorde.) Albaqara 285. Alla daali:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل
عمران: 84]

(Maaku: "Men gomdinii Alla e ko jippinaa dow amen e ko jippinaa dow Ibrahiima e Isma'iila e Ishaqa e Yaaquuba e Taaniraabe ben e ko Muusaa e lisaa okkaa e Annabaabe ben immorde ka Joomi mabbe. Men serndataa hakkunde gooto e mabbe, Menen wonande Mo ko men jebbiliibe".) Aali Imraan 84

4: Goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo kisal won e mum en, na waddii goondinde denndaangal Annabaabe e fibde wonde kambe fof kobe Nulaabe ummaade to Alla hoƙe njottina yimbe mum en nule e diine e sariya Alla, Alla daali:

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

(Mbiyee min goondinii Alla e ko tellinaa e amen e ko tellinaa e Ibraahiima e Ismaa'iil e Ishaqa e yaaquuba e Asbaadi e ko Muusa

tottaa ko e lisa e ko Annabaabe tottaa ko ummorde ka Joomi mum en, min ceerndatah hakkunde gooto e mum en, emin njebbilinii Mbo.) Al Baqara 136. Alla daali:

﴿عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ كَيْبَهُ وَكُتِبَ لَهُ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

(Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.) Albaqara 285. Alla daali:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]

(Mbiyee min goondinii Alla e ko tellinaa e amen e ko tellinaa e Ibraahiima e Ismaa*iil e Ishaqa e yaaquuba e Asbaadi e ko Muusa tottaa ko e lisa e ko Annabaabe tottaa ko ummorde ka Joomi mum en, min ceerndatah hakkunde gooto e mum en, emin njebbilinii Mbo.) Aali Imraan 84.

Nde o goondinta timmoode mum en Muhamed yo o his, ko kanko woni timmino Annabaabe e Nulaabe yo jam won e mum en, Alla daali:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِء وَتَنْصُرْتَهُ قَالَ ءَأَقْرَضُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

(Tuma nde Alla yettunoo ahdi e Annabaabe ben : "Si Mi Addanii on Deftere e fahmu, refti Nulaado ari e mo'on goongindo kon ko jogidon, ma on gomdin mo wallitodon mo". O Daali: "E on qirritike dum, on yettii e hoore mun ahadi?". Be wi'i: "Men qirritike". O Daali: "Seeditee, Mido wondi e mo'on ka seeditiibe".) Aali Imraan 81

Islaam na waddina goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaaebe, na waddina kadi goondinde timmoode mum en Muhamed yo o his, Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾ [المائدة: 68]

(Maaku onon jom en defte on wonaani e hay huunde haa ndarnon Tawreeta e Injiil e ko tellinaa ko faade e mon ummaade e Joomi mon.) Al Maa*ida 68. Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

(Maaku:"Ko onon yo yimbe Defte,aree e konngol fotayngol hakkunde amen e mo'on:wonnde en rewataa si wanaa Alla,en kafidataa Mo e huunde,wata yoga e me'en jogitor yogo goo joomiraaabe ko woori Alla".Si be huccitii, wi*ee: "Seeditee wonnde menen ko men jebbiliibe".) Aali Imraan 64. Kala jeddufo Annabi gooto o yeddiibe kambe fof e Nulaabe fof yo jam won e mum en, ko dum saabii O daali hombo hafra gaa e Nuuh yo o his :

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105]

(Yimbe Nuuh pennii Nulaabe.) Assu*araa 105.

Na anndaa wonde hay Nulaaɗo gooto adaaki Nuuhu, kono nde yimbe Makko penni mbo, ngol pennugol woni pennugol denndaangal Annabaabe e Nulaabe, sabu noddaandu mum en ko wooturu faandaare mum en ko wootere.

5:Goondfiyinde ñande darngo, ndeen woni sakkatiinde e nguurndam aduna, Alla yamira Asraafiil o wutta wuttaango faddoowo, kala mbo Alla haaji maaya, Alla daali:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾

فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ [الزمر: 68]

((Wuttee ka Allaandu, kala ko woni ka kammuuli e ka leydi kon faddee, si wanaa ben be Allah muuyani [dadugol]. Refti wuttee e mayru didabol, tawa ko be dariibe na habbitii.) Ajjumur 68. Si halkiima kala ko wonno e kammuuji e leydi, si wonah ko Alla haaji, Alla tagga kammuuji e leydi, hono no O daaliri :

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّاعِلِينَ إِنَّا كُنَّا﴾

فَلْعَالِينَ ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء: 104]

(ñande Min cowi kammu o hono no defte sowrate, Min nduttat tagu ngu hono no Min puɗɗirinoo ngu nih,ko fodoore e dow amen pellet ko Min wadoobe.) Al Anbiyaa 104. Alla daali:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾

﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزمر: 67]

(be hoddiraani Alla no O foti hoddireede nih, te leydi ndii fof ko e tamannde Makko ñande darnga, kammuuji dii na cowaa e ñaama Makko, senaade woodanii Mbo, O toowii kobe ndenndinta Mbo ko.)

Ajjumiri 67. Be maaki kadi:Alla sowa kammuuji di ñande darnga refti O nanngira di ñaamo Makko O daala:Ko miin woni laamdo hodo sanndalinnoobe? hodo mawnikinoo- be,refti O sowira lesdeele de nana Makko refti O daala:ko Miin wini laamdo hodo sanndalinnoobe?Hodo mawnikinoobe?Ko Muslim fillii mo.Refti Alla yamira malayka yo o wuttu heen wuttaango wonngo, e doon be ummoo hobe ndaarandira, Alla daali:

﴿... ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

(Refti wuttee nder hendu wuttaandu wodndu be ummo kisan hobe ndaara.)**Ajjumur 68.** Si Alla umminii tagu ngu O renndinabe ngam hisaab, Alla daali:

﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: 44]

(ñande leydi ndi fetti gaa mum en hobe njaawnoo, dum ko denndingol newingol e Amen.) **Qaaf 44.** Alla daali:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

(ñalgu mbo be njaltata hay huunde e mabbe wirnataaka Alla, hombo laamu woodani hannde ? Ko Alla bajjo pooloowo O ngu woodani.) **Gaafir 16.** E nguu ñalngu Alla haasbo aade en,O yoftanoo kala tooñaado ummaade e tooñdo,mo kala yobe fotde golle makko,Alla daali:

﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: 17]

(Hannde kala fittaandu yobete kondu faggatinoo, tooñange alah hannde, Alla na yaawi haasboore.) **Gaafir.** Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَك حَسَنَةً بُضِعْفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا

عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]

(Pellet Alla tooñatah fotde gabbel jarra, si wonii ko moyyere O sowande O totta ummaade e Makko njeenaari mawndi.) Annisa 40. Alla daali:

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: 7-8]

(kala golludo fotde gabbel jarra e moyyere o yi*a nde. Kala golludo fotde gabbel jarra e bonannde ma yii dum.8.) Ajjaljala 7-8. Alla daali:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ

أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الأنبياء: 47]

(Min lelna peesirgal wonande ñalngu darnga, fittaandu tooñetaake hay ndiga, hay si wonii fotde gabbel kardal ma Min ngaddu ngel Min njonii hasboobe.) Al Anbiya. 47. Caggal ummital e hasbeede njobdi ara kala golludo ko moyyi o heba neema duumiido mbo iwatah, kala golludo ko boni o heba lepte, Alla daali:

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ التَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾﴾ [الحج: 56-57]

(Laamu woodanii Alla hannde Hombo ñaawa hakkunde mum en, been goondibe ko moyyi hobe e nder aljanna neema 56. Yeddube be noon be penni aayaeje Amen deen woodaniibe lepte koynooje 57.) Al Hajju 56-57. Heden nganndi si nguurndam aduna wonno haadtirde, ma nguurndam e goodal wonatna fijirdee bolde, Alla daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]

(Mbela on cikku ko fijirde wadi tagmi mon, mbela pellet on nduttataako e Amen.) Al Muuminuun 115.

6: Goondinde ñaawoore e hoddira, duum woni na waddii goondinde wonde Alla andii ko wonnoo e ko wonata e nde winndere, Alla winndii dum fof ko adii de kammuuji e leydi tagate, Alla daali:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يُعَلِّمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا

يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]

(Homba jogii coktirde mbirniindi hay gooto anndaade si wonah Kanko, Hombo anndi ko woni e jeeri e maaya, kaakalol yanatah si wonah tawa Hombo anndi ngol, wonah gabbel e niibe leydi wonah ko heccidi wonah ko yoori si wonah tawa na winnda e deftere banngunde.) Al An Aam 59. Alla na fiiltii kala huunde e ganndal Makko, Alla daali:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]

(Alla woni Oon tagdo kammuuji jeedidi e leydi yeru majji Hombo tellina yamiroore hakkunde majji, haa nganndon wonde Alla ko kattando kala huunde, te pellet Alla ko piiltiido kala huunde e ganndal Makko.) Attalaaq 12. Alah ko yanta e nde winndere si wonah taw Alla na muuyi dum O haaja, O tagi dum O newni sababuuji mum, Alla daali:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ

شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

(Mbo laamu kammuuji e leydi woodani, O jogitaaki biɗɗo, O alah denndadiijo e laamu mum he, O tagi kala huunde O hoddarinde koddirgol.) Al furqaan2. Na woodani mbo e ɗuum ñeenyal jottingal, ngal yimbe mbaawah fiiltaade, Alla daali:

﴿حِكْمَةٌ بَلِيغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ [القمر: 5]

(ñeeñal jottingal jeertinoobe nafaani.) Al Qamar 5. Alla daali:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: 27]

(Ko kanko fuddi tagu ngu refti O ruttangu ko ɗuum buri newaade e makko, na woodani Mbo yeru burngu toowde nder kammuuji e leydi, ko Kanko woni poolɗo mbo fooletaake ñeeñudo.) Arruum 27. Alla sifarii Hoore Makko nyeenyal, O inniri Hoore Makko ñeenyɗudo, Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

(Alla seediima wonde pellet dewettedo e goonga alah si wonah kanko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, dewettedo alah si wonah kanko, kanko woni poolɗo mbo fooletaake ñeeñudo.) Aali Imraan 18. Alla daali hombo habra gaa e lisa yo o his, wonde ko kaaldoowo e Alla ñande darnga, O daali:

﴿إِنْ تَعْدِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]

(Si A leptii be, pellet, kambe ko be jeyaabe Maafa. Si A haforanii be, pellet, ko An woni Fooludo, Ñeeñudo.) Al Maa*ida 118. Alla daalani Muusa mbo kisal woni tumo nde O noddii mbo e banng'e Tuur:

﴿يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9]

(Aan Muusa ko Miin de pellet woni Alla pooludo ñeeñudo.) Annamli 9. O sifarii quraana tedduɗo ñeeñal, Alla daali:

﴿الرَّ كَتَبَ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]

(Alif laam Raa, deftere nde aayeeje mayre ñdeeñina ummorde e ñeeñudo kumpatiido.) Huud 1. Alla daali:

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا

مَذْحُورًا﴾ [الإسراء: 39]

(ɗuum na jeyaa ko Joom ma wahyii e ñeeñal, woto waddu Alla e deweteedo godɗo mberleledae jahannama ñiñaado godɗinaado yurmeende Alla.) Al Israa 39.

Annabaabe ko reenaabe kobe njottinanta ko Alla , kobe reenaabe e kala ko yaadaani e hakkille maa ko jikku kisd'o salato, ka Annabaabe fawaa yottinde jamirooje Alla faade e jiyaabe Makko, Annabaabe ngalah ko Alla heerori ko e jeyde e reweede, alah kambe kobe bannduyankooɗe, hono denndaangal aade en, Alla na wahyoo e mabbe nule Makko de.

Annabaabe kobe reenaabe kobe njottinanta ko Alla, sabu Alla suboto e burbe e tagu Mum he be njottinana Mbo nule Makko de, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75]

(Alla na suboo ummaade e malaykaaji nulaabe e yimbe hee kadi homb subo e madbe nulaabe, pellet Alla ko nanoowo ko ji*oowo.) Al Hajji 75. Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]

(Pellet, Alla Subike Aadama e Nuuhu e yimbe Ibraahiima ben e yimbe Imraana ben e hoore tagoore nden.) Aali Imraan 33. Alla daali:

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْنِكَ وَكُن مِّنَ

الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144]

(O Daali : "Ko an yo Muusaa, Min Mi suborii ma e yimbe ben Nule Am den e konngol am ngol. Jogito ko Mi jonnu maa kon jeyedaa e yettoobe ben".) Al Aaraaf 144. Nulabe be jam e kisal ngoni e mum en hobñde nganndi ko tellinaa ko e dow mum en ko wahyu Alliiyanke, hobe cedo malaykaaji na tellina wahyu, Alla toowdo O daali:

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَن أَرَادَ مِن رَّسُولِي فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ

يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٧٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدِ ابْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ

عَدَدًا ﴿٢٨﴾﴾ [الجن: 26-28]

(Gannda mbirniindi hay gooto O yellittah e mbirniindi Makko hee. 26. Tawi wonah Mbo welaa e Nulaada, oon de Hombo naatna yeeso makko e caggal makko peewal. 27. Haa o anda wonde be njottanii nule Joom mabbe de tigi O fiiltii ko woni koo e mum en O tonggi limoore kala huunde. 28.) Al Jinni: 26- 28. Alla yamiribe yottinde nulal Makko ngal O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ [المائدة: 67]

(Ee hey maa Nulaado yottin ko tellinaa ko e Maa ummaade e Joom Maa, si A wadaani A yottinaani nul Makko ngal, Alla na reen Maa e yimbe he, Alla dee feewnatah tooñoobe ben.) Al Maaùida 67. Alla daali:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ [النساء: 165]

(Nulaabe weltinoobe e jertinoobe fii wata hujja wonan yimbe ben e hoore Alla baawo Nulaabe ben. Alla Laatike Fooludo, Ñeeñudo.) Annisaa 165. Nulaabe yo kisal won e Mum en hobe hula Alla kulol cattungol, be hula Mbo be beydatah e nulal Makko hee, be ustatah heen hay huunde, Alla daali:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا

مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ [الحاقة: 44-47]

(Siko o fepandiimbo e Am yogo e konggudí 44. Ma Min nanngir mo nyaama 45. Refti Min taya e makko boggi bernde makko 46. Alah e mon palantoodo mbo 47.) Al Haaqa 44-47.

Ibn Al kasiir (yo Alla hinno mo) wi'i:Alla toowdo O daali: (si o fefandiima e Amen yogo e konggudí) Si Muhamadu yo O his fefandiima e Amen O beydi maa o usti heen huunde O askini dum e Amen, Ma Min cafrir dum lepte, ko dum wadí O daali: (ma min nanngir mbo ñaama) wi*aama: ma min leptir mbo ñaama, sabu ko kanngo buri sattude jawlannde, wi*aama kadi : Ma Min nanngu e ñaama makko wolla woondoore makko.O daali:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي أَيْنَ مَرِّمَءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ لِلنَّهْبِيِّينَ مِنَ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكِ إِنَّ كُنْتَ فُلْتَهُ فَعَدَّ عَلِمَتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا فُلْتَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾﴾ [المائدة: 116-117]

(E tumo nde Alla daali Aan lisa biy Maryama, ko Aan maakani yimbe be njaggiree kam Miin e Neene am reweteebe ko wonah Alla, O maaki senaade woodanii Ma, haanaani mi nde kaalat Mi ko wonah goonga, somi haalii duum pellet hada anndi dum, Ana anndi ko woni e fittaandu am Mi anndah ko woni e fittaandu Maa, pellet ko Aan woni Ganndo mbirniindi, Mi wi*aanibe si wonah ko njimirdon Mi ko, ndewee Alla Joomam e Joomi mon, Mi laatina seede e dow mum en nde ngon Mi nde e mum en, nde kuubnuda Mi nde ngon- daa Koroowo e dow mabbe, Aan ko a ceediido e dow kala huunde.) Al Maa*ida 116-117. Ina jeyaa e bure Alla e dow Annabaabe e Nulaabe Mum yobe kis, Alla tabatiniibe saanga ndebe njottinatnoo nule Makko dee, Alla daali:

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَا بَعْضُ الْعَالَمِينَ بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: 54-56]

(O wii pellet mino seedna Alla ceedee komi kisd e ko cirkaton ko(54) e tanah Makko on sabbetaake(55) Tigi tigi Mi wakkaliima e Alla Joomi Am e Joomi mon alah daabaayel goodangel si wonah hombo nanngi e tiintiinol maggel, pellet Joom am ina e laawol poothingol.) Huud (54- 56) Alla daali :

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَتَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا﴾ (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا فَلْيَلَا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ [الإسراء: 73-75]

(Sibe desiina fitnindema gaa e ko Min mbahyii ko faade e Ma ngam pepindada e dow Amen huunde goo ndeen de mabe jaggir Ma sehil.(73) So Min tabintinaano Ma A desatno wuuraade e mabbe setta (74). Sinnda noon Min mednayno Ma sowre nguurndam e sowre maayde refti A hebatah e Amen balloowo (75.))Al Israa (73-75) Aayeeje dee e ado majje ko seede e daliil wonde Quraana koka tellinaa ummorde ka Alla Jom binnden, si nde ummina ka Muhammadu yo o his, nde soomatah yeru ko haala huccinaaka e makko.Alla jom senaare na reena Nulaabe makko e yimbe, Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٦٧) [المائدة: 67]

(Ee hey maa Nulaado yottin ko tellinaa ko e Maa ummaade Joom Maa, si A wadaani A yottinaani nul Makko ngal, Alla na reen Maa e yimbe he, Alla dee feewnatah tooñoobe ben.) Al Maa*ida 67. Alla daali:

﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيِّقُوا إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون﴾ (٧١) [يونس: 71]

(Taranobe kabaaru Nuuhu nde O maakannoo yimbe makko, ee hey mon yimbe am si wonii mawnii e mon ñiiɓgol am e siftinirgol am aayeeje Alla dee, Mi wakkaliima e Alla, ndenndinee fiyakuuji mon e

renndadiibe mon, refti fiyakuuji mon dīn mbaasa wonande mon bittere refti ñaawe faade e am wote cabbee kam.)Yuunis 71. Alla daali hombo habra konngol Muusa mo kisal woni e dow makko:

﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّنا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَينا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ [٤٥] قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنا مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرى

[٤٦] ﴿طه: 45-46﴾

(Be mbii pellet minen emin kuli nde o fantinta jaggitgol e dow amen wolla o bewa, O daali taa kulee pellet Mina wondi e mon Mina nana Mi yi*a.) Taaha (45-46.) Alla holli wonde hombo reena Nulaabe Makko ummmaade añbe mum en, be yottintaabe bonannde, Alla holli kadi Hombo reena wahyu Makko on, mbo ustetaake mbo beydetaake O daali:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَلاَحْفَظُونَ﴾ [٩] ﴿الحجر: 9﴾

(Ko Minen tellini Quraana ko Minen reenata mbo.) Al Hijri 9. Annabaabe yo kisal won e Mum en ko renaabe e kala ko yaadaani e hakkille wolla jikku, Alla daali hombo labbina Muamadu:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمٍ﴾ [٤] ﴿القلَم: 4﴾

(Aan hada woni e dow jukku tedduɗo.) Al Qalam (4). O daali e Makko kadi:

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ [٢٢] ﴿التكوير: 22﴾

(Gondiijo mon wonah haangaaka.) Attakwiir (22). Sabu bñde ndaroo e nelal ngal e mbaadi burndi lobbude, Annabaabe yo kisal won e mum en na pawaa yottinde jamirooje Alla ngam jeyaabe Makko, be ngalah noon ko Joomi men heerori to banngge Aliyankaagal

ma e bannge wonde deweteedo, kambe kobe aade en hono no aadee en fof, wahyu na teloo e mum en, ngam nule Alla, Alla daali:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا

كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ [إبراهيم: 11]

(Nulaado mabbe ben wiibe Min ngonah si wonah bannduyankooobe kono Alla na yeda mbo O welaa e Jiyaabe Makko, woodanaana Min nde Min addanta on hujju si wonah e sakkitoore Alla, ko e Alla tan goondinbe pawatoo.) Ibraahiima 11. Alla daali na yamira Nulaado makko Muhamadu yo o his yo O haalan yimbe mum:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ﴿١١﴾﴾ [الكهف: 110]

(Maaku pellet komi bannduyanke hono mon, ina wahye e am wonde tigi tigi deweteedo mon ko gooto, kala tijjido hawrude Joomi makko yo o gollu ko lobbi woto o rewdu Alla e goddo.) AL Kahfi 110.

Islaaml noddata ko yoo Alla tan rewire asliiji dewe Alla njane den, deen ngoni: Juulde nde nganndufa woni daraade e rukuu e sujuud e yettude e manntude Alla e toraade, aade na juula ñande fof laabi joy, seerugol hakkunde gala e baasdoola e laamdo e laamaado fof ittoo, kambe fof be ndaroo e sappe goota e nde juulde he, e Askal dum ko huunde setta e jawdi wondude e sarteeki e embereeki di Alla dotti, dum na wafdi e jawdi aldube nafqiree waasbe e tanaa mum en, laaawol gootol kala hitaande, e Koorka ko dum woni nanngude hoore mum e ko firtata koorka nder ñalawma lewru koorka, dum na neha fittaandu to bange muuyaande e munyal, e Hajju ko dum woni yaade to ssuudu hormaandu ndu, nduun woni Makka laawol gootol nder nguurndam wonande baawdo, e oo hajju fof en na pota to bange huccitde e tagdo O, aade en fof pota ceergol hakkunde mum en ittoo fes.

Islaam na nodda faade e dewe Allaa njane den... de dewe Alla fawiide e denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mabbe, buri mawnude e dewe Alla ko :

Gadanel ngel woni: Juulde nde Alla farli nde e dow juulbe hono no O farlirinde e denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, O yamiri annabi Makko Ibraahiima yo o his nde o labbinta suudu Makka ndu wonande wanngatoobe e juuloobe e sujjoobe, O daali:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ [البقرة: 125]

(Nde Min mbabno suudu ndu ko barjordu e hoolaare wonande aade en, njaggiree Maqaam Ibraahiima juulirde, Min aadani Ibraahiima e Ismaa'iil labbinee suudu Am ndu wonande wanngatoobe e uufnatoobe e wafaybe rukuu e sujuud.) Al Baqara 125. Alla waddini dum e Muusa yo o his, e noddaandu adanuru ndu O noddi Muusa O daali :

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا

يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾﴾ [طه: 12-14]

(Pellet ko Miin woni Joomiraawo ma solu pade ma hada woni e caatngol ceninangol tuwaa (12) Mi subiimo Ma jenta ko wahyete daa ko.(13) Ko Miin tigi woni Alla deweteedo alah si wonah Miin wadde ndewe Kam darnu juulde ngam jantaadaa Mi. 14) Taaha 12-14. O habri Masiihu yo o his, wonde Alla yamarii mbo juulde e askude o wii hono no Alla habiriri :

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾﴾ [مریم: 31]

(O wadi kam barkinaado e nokku kala ka mi woni; O wasiyori lam julde e Jakka, fodde mido wuuri.)Maryama (31)

Juulde e nder Islaam ko darnde e rukuu e sujuud e jantaade Alla e mantude Mbo e toraade, neddo na juula laabi joyi kala ñalawma Alla daali :

﴿حَنَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾ [البقرة: 238]

(Ndeene juuldee e juulde hakkundeere nde ndaranee Alla hodon yankinanii Mbo.) Al Baqara 238. Alla daali:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]

(Darnu juulde saanga ooñagol naange haa nibel jemma e juulde subaka juulde subaka ko ka seeda.) Al Israa 78. Be maaki kadi: Mawninee Joomiraawo saanga rukuu, tawii ko saanga sujuud tiinnee e toraade sabu na haani nde njaabante don. Sahiih Muslim.

2: Askal ngal Alla farli e juulbe hono no O farlirnoo ngal e Annabaabe e Nulaabe adiiibe be yo kisal won e mum en, askal ko fotde e jawdi tawa na fawii e sardiiji di Alla hoddiri, hongal fawii e jawle aldube ngal tottee wasbe e tanah mum en kala hitaande laawol gootol, Alla daali:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: 103]

(Nanngu e jawle mum en sadak labbinaabe heen du*anobe pellet du*aawu Ma ko hubindaare wonandebe Alla de ko nanoowo ganndo.) Attawba 103. Nde Nulaado yo o his nulnoo Mu*aaju yo weluya Alla won e makko faade Yaman o maakani mo: Pellet ma ar e yimbe joman en defte, noddube faade e seedaade alah deweteedo e ngoonga si wonah Alla, Miin komi Nulaado Alla tigi, sibe doftiimo ma e duum anndibe farlaama e mum en juuldeele joyi kala ñalawma e kala jemma, sibe doftiima ma e duum anndibe Alla fawii e mum en askal ummaade e jawle mum en ngal nanngal aldube mabbe tottee wasbe, sibe doftiimo ma e duum reento jawle mum en burde teddude, reento noddugol tooñaado sabu heedo alah hakkunde nduun noddaandu e Alla. Ko Tirmidhi fillii mo.

3: Hoorde ko Alla farli dum e muslim en hono no farliri dum e Annabaabe e Nulaabe adiiɓe, yo kisal won e mum en. Alla daali:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]

(Eehey mon goondinbe koorko farlaama e mon hono no ka farlirano e adiiɓe mon ngam kulon Alla.) Al Baqara 183. Koorko woni accude bonnooji koorko e nder lewru koorko, koorko na neha e nder fittaandu muñal e muuyaande. Be maaki kadi: Alla na daala : koorko ko miin woodani ko Miin yobata ka, saba koordɔ na acca tuuyo mum e ñaamdu mum e yardu sabu Am, koorko ko heedo, na woodani koordɔ beltaaje dide: weltaare si o humtiima e weltaare si o hawrii e Joomi makko. Sahiih Bukhaari 7492.

4: Hajju noon ko Alla farli dum e juulɓe hono no farlirnoo mbo e Annabaabe e Nulaabe adiiɓe yo kisal won e Mum en, Alla yamiri Annabi Makko Ibraahiima yo o his, nde o noddata faade e hajju Alla daalai :

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]

(Noddu yimbe be faade e hajju be ngara hobe cuudo e dow kala dehiidi be ngara ummorde e laabi godɗudɗi.) Al Hajju 27. Alla yamari mbo nde o labbinta suudu ndu wonande been hajjooɓe, O daali:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ﴾ [الحج: 26]

(Nde Min holliti Ibraahaama nokku suudu ndu woto o renndin amen e tanaa amen hay huunde, labbin suudu ndu wonande

wanngatoob e dariibe e turotoobe e sujjoobe.) Al HAJJU 26. Hajju woni:faandaraade suudu Alla hormaandu wonndu to Makka golle ganndaade laawol gootol nder nguurndam wonande kattando Alla daali:

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]

(Woodanii Alla e dow yimbe hajjude e suudu ndu wonande kattando laawol faade e hendu, oon jedduɗo noon pellet Alla na yondanii gaa e winndere hee.) Aali Imraan 97

E nder hajju juulbe be ndenndata e nokku gooto hoɓe cellini dewal Alla, denndaangal hajjoobe hoɓe tottira dewe e mbaadi nanndundi na seera heen hakkunde mum en ceerundale neesu e pinal e tolnde nguura.

Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteji majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata.

Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteji majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata.

﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا... ﴿٣﴾ [المائدة: 3]

(Ko hannde kempinan Mi on diine mon, timminan Mi on neema Am, mbelanaa Mi on diine Islaam diine.) Al Maa*ida 3. Alla daali:

﴿فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾﴾ [الزخرف: 43]

(Jogito kon ko wahyinaa e maada. Pellet, hida jokki laawol pocciingol.) Ajukrufi 43. Alla daali gaa e juulde:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾ [النساء: 103]

(Si on gaynii juulde jantee hodon ndarii e hodon njoodi e banngeegi mon, si on ndeeyi ndarnee juulde, pellet juulde ko farilla waqtinaado e dow juulbe.) Annisaa 103. Alla daali e no askal e do askal foti totteede:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَدْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾ [التوبة: 60]

(Anndee sadakaaji din ko fii waasube ben, e miskiinaabe ben, e golloobe e majji ben, e woowinirteebe berde mun (Lislaamu) ben, e daade rindinteebe, e ben ñawliibe, e fii laawol Alla e bii-laawol. Ko farilla immorde ka Alla. Alla ko Anndudo Ñeeñudo.) Attawba 60. Alla daali e koorko :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾
[البقرة: 185]

(Lewru koorka ndun, ndu Alqur'aanaare nden jippinaa e mu'un, ko ndu peewal wonannde yimbe ben e bangannduyeeji immorde e peewal e serndugol. On e mo'on seediido lewru ndun, yo o hooru ndu. On tawdo no nawni maa himo e hoore-jahal, ko limtugol e ñaldfi goo. Alla no Faandanii on neweende O Faandanaaki on sadteende; e fii yo on timmin limoore nden e no mawniniron Alla kon ko O Fewni on, belajo'o on jaarnay Mo.) Al Baqara 185. Alla daali gaa e Hajju:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾﴾ [البقرة: 197]

(Hajju ngun:ko lebbi anndaafi. Mo anniyike e nder majji hajju,renndugol alaa,wanaa faasoqingol wanaa kadi yeddondiro ka hajju.Kala ko gollugdon e moyyere, Allah no Anndi dum.Yoobe,ko buri moyyude e njooba,ko gomdal. Hulee Lam yo joomiraabe haqqillaaji.) Al Baqara 197. Denndaangal dee dewe Alla woni ko denndaangal Annabaabe noddii, yo kisal won e mum en.

Nulaaɗo islaam o Muhamadu kanko woni biy Abdullaay jeyaado e Ismaa'iil biy Ibraahiima yo kisal won e mum en,O jibinaa ko e Makka hitaande 571 j i O nelaa toon O feri faade Madiina O renndaano e yimbe makko ko faati e rewde sanamuuji,kono hombo renndatnoo e mum en ko faati e golle tedduɗe,yimbe makko no inniratnoo mbo koolaado sabu jikku makko laabɗo,nde dañi duubi 40 Alla sembiniri mbo aayeeje njane,ko quraana furi heen mawnu ko kammo woni keddiɗo haa jooni,nde o timmini diine Nulaaɗo yottini mbo no haaniri nih,o sankii hombo yaara e duubi 63 o wirnaa to Madiina,Nulaaɗo Muhamadu woni timmorde annabaabe e Nulaabe, Alla neliri mbo peewal e yaltinde aade en e nibe sanamuuji e keefaraagal e majjere,faade annoore tawhiid e iimaan,Alla seedi wonde O nelii mbo noddoowo faade e Alla e yamiroore Makko.

Nulaaɗo Islaam woni Muhamadu biy Abdullaay jeyaado e Ismaaiil biy Ibraahiima, O jibinaa ko e Makka hitaande 571 Ji, O nelaa toon, O feri faade Madiina, yimbe makko na inndiranoo mbo koolaado, O renndaana e yimbe mum ko faati e rewde sanamuuji, kono tan hombo renndatnoo e mum en e golle tedduɗe, hombo joginoo jikku lobba ko adii nuleede mbo, Alla sifarii mbo jikku lobbo, O daali:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [الفلم: 4]

(Aan haɗa woni e dow jukku tedduɗo.) Al Qalam (4). Alla neli mbo nde o hebi kitaale 40, O sembiniri mbo kaawisaaji mawɗi, ko quraana furi heen mawnude. Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: Alah e Annabaabe si wonah o totte fotde ko yimbe be goondini, kono Miin tottaa Mi ko wahyu mbo Alla wahyii Mi, mbeɗa

joortii nde kebat Mi ko buribe sukkuɓe e am ñande darngo. Ko Bukaari fillii mbo. Quraana tedduɗo o ko wahyu faade e Nulaado yo o his, Alla daali:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]

(Ndeen deftere sikke alah e mayre, ina e hende peewal wonande hulɓe Alla.) Al Baqara 2. Alla Toowɗo daali :

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:

[82

(Mbela be teskataako Quraana, sinde ummino ka wonah Alla mabe taw e mayre luural keewngal.) Annisa 82. Alla dikkii yimbe e jinneeji nde be addata yeru mayre O daali:

﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحَيُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]

(Maaku si aade en e jinneeji ndentii ngam addude hono oo Quraana, be ngaddatah yeru mammba, hay sibe mballandirii.) Al Israa 88. Alla dikkii be nde be ngaddata cimooje sappa yeru mambo, Alla daali:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن

كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: 13]

(Mbela be wii O fefandi mbo, maaku addee cimooje sappa yeru hembo tawa ko pepindaade, nodde mbo waawɗon noddude mbo wonah Alla tawi ko on goonɗuɓe.) Huud 13. Alla dikkii be nde be ngaddata simoore wootetre yeru quraana Alla daali:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ [البقرة: 23]

(Si on wonii e sikke ko Min tellini ko e maccuḍo Amen ngadde simoore yeru hembra noddee seedeeji mon ko aldah e Alla si on ngonii goondube.) Al Baqara 23.

Quraana tedduḍo o kaawis gooto keddiido e kaawisaaji Annabaabe haa hannde, nde Alla timminani Nulaaḍo diine, o yottini mbo no haaniri nih, Nulaaḍo sankii hombo yaara e duubi 63, O suuraa to Madiina, yo kisal won e Mum.

Ko Nulaaḍo woni timmoode Annabaabe e Nulaabe, Alla daali:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: 40]

(Muhammadu wonaani baabiraḍo hay gooto e mon, ko woni ko O Nelaado Alla ko O tiimorde Annabaabe, Alla wonii te O seeraani wonde gannda kala huunde.) Al Ahjaab 40

Eggaama e Abuu Hurayrah (yo Alla wele mo), wonnde Nulaaḍo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki :yeru am e Annabaabe adiiḍe ko hono gorko mahḍo galle o moyyini mbo o lobbini mbo,si wonah tuufeere wootere e jookdu galle he, yimbe na sera mamambo e haaweede mbo,hoḍe wi*a hol ko haḍi ndee tuufeere wade? O maaki ko miin woni woni tuufeere nde,ko miin woni timmorde Annabaabe.Sahiih Bukaari.E nder Injiil Masiih wii hombo weltina arde Nulaaḍo Muhamadu yo o his:Haayre nde mahoḍe calii nde, ko kayre woni hoore jookdu ndu, mbela on njangaani e defte: Yasuu maakibe ummaade ka Joomiraawo ḍum woniina ko haawnii e gite amen. e

deftere tawreetat woodaande jooni nde, jolii heen konggol Alla wonande Muusa yo o his: (ma Mi darnabe Nulaado e hakkunde musibbe hono ma Mi wada haala Am e hunduko makko he,o haalda e mum en kala ko mbasayii mbo)Muhamadu yo o his Alla nelirii mbo peewal e diine goonga, Alla seedanii mbo wonde ko e goonga o woni, O nelii mbo faade e Makko e yamiroore Makko Alla daali:

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ [النساء: 166]

(Kono Alla na seedoo ko o tellini ko e maa, O tellini dum ko e ganndal makko, e malaykaaji dii na ceedoo Alla yonii seede.) Annisaa 166. Alla daali:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ [الفتح: 28]

(ko kanko nuli nulaado makko e peewal e diine goonga ngam O fawa mbo e diineeji Alla yonii seede.) Al Fathi 28. Alla nelirii mbo peewal sabi o yaltina aade en e nibbe sanamuuji e keefeeru e majjere faade e annoore tawhiid e limaan Alla daali:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ [المائدة: 16]

(Hombo feewnira nde oon dewdo weluya Makko laabi kisal O yaltinabe e nibbe faade e annoore e sakkitoore makko e feewnabe e laawol poothingol.)Al Maaida 16. Alla daali:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ [إبراهيم: 1]

(Alif Laam Ra deftere nde Min tellini e maa ko ngam njaltinaa yimbe be e nibbe faade e annoore e sakkitoore Joomi mum en faade e laawol teddudo Jettaado O.) Ibraahiim 1.

Sariya Islaam mbo Muhamadu addi o, kamambo woni timmorde nele Alliyankooje e sariyaaji Joomiraawo, ko kamambo woni sariya timmal ko hembo woni moy'ere diine aade en e aduna mum en, hombo reena e daraja gadana: diineeji, y'iiye, jawle, hakkillaaji e jeñol yimbe, ko kamamba firti sariyaaji gadiidi hono no diin pirtirnoo yogo e majji.

Sariya islaam mbo Muhamadu addi o woni timmoode nele Alliyankooje e sariyaaji ummiidi ka Joomiraawo, ko e mammba Alla timminiri diin, neema timmi e dow yimbe nde Muhamadu yo jam e kisal won e mum nulaa e mum en Alla daali:

﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا... ﴿٣﴾ [المائدة: 3]

(Hannde timminan Mi mon diine mon kempinan Mi on neema am, mbelanaa Mi mon Islaam diine.) Al Maa*ida 3.

Sariya islaam woni sariya timmal e moyyere diine aade en e aduna mum en, sabu hombo renndini ko wonnoo ko sariyaaji ado di, kambo buri timmude, Alla daali:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9]

(pellet o Quraana na feewna faade ko bñyuri fooccaade hombo weltina juulbe gollube ko lobbi na woodaniɓe njobdi mawndi.) Al Israa 9. Sariya Islaam ittii cafeelee yimbe gonnoode e dente gadiide de,Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157]

(Rewatnoobe Nulaad o Annabi mbobe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko mbyyoi O hadabe ko boni O dagnanabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinabe cafeelee mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be.) Al Aaraaf 157. Sariya Islaam woni ittudo denndaangal sariyaaji gadiidi dii, Alla daali:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاؤُسَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

(Min tellini e Ma deftere nde e goonga honde goongini deftere wonnde e hakkunde juude mum , honde hiilndi e mum, ñaawir hakkunde mabbe ko Alla tellini ko wota a rew e belaaɗe mabbe gaa

ko ari ko e Ma e goonga, gooto fof Min wafanii mbo sariya e laawol, si Alla welanooma O waday on leñol gootol, kono tan ko haa O jariboo on ndadandire e golle moyye, ko faade e Alla woni ruttorde Mon onon fof, O habra mon ko wonnodon luurude ko e mum.) Al Maa*ida 48. Quraana teddufo o na soomi sariya, mbo ari ko hombo goondini ko adii mbo e defte Alliyankooje, ko kambo woni ñaawoowo e majje nuski de.

Alla ceniifo O jabatah ko wonah diine islaam mbo Nulaado Muhamed addi o yo jam e kisal won e mum, kala nantiifo e diine mbo wonah islaam o jabantaake.

Alla ceniifo O jabatah ko wonah diine islaam mbo Nulaado Muhamed addi o yo jam e kisal won e mum, kala nantiifo e diine mbo wonah islaam o jabantaake. Alla daali:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]

(Kala dabbirfo ko wonah islaam diine o jabantaake e mum, knko to laakira ko e pertufe o jeyete.) Aali Imraan 85. Alla daali:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُوا وَمَا اختلف الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19]

(Pellet diine ka Alla to diine islaam, yeddandiraani jomen defte en si wonah caggal nde ganndal ari e mum en bewre hakkunde mum en be luuri, kala jeddufo aayeeje Alla pellet Alla ko jaawdo hisaab.) Aali Imraan 19. O Islaam woni laawol Annabi Ibraahiima yo jam kisal won e dow mum Alla daali:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ [البقرة: 130]

(Alaa duurnotoodo (calotoodo) laawol Ibrahiima sonaa mbo fittaandu mum daayi ngandee Min cubiima mo e aduna kanko o jeyaa ko e moyyube to laakara.) Al Baqara 130. Alla daali:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ [النساء: 125]

(Alah burdo moyyude diine wonannde oon jebbildo yeesa Alla tawa hombo moyyini o rewi laawol Ibraahiima peewngol ngol ooñaaki e majjere, Alla jaggarii Ibraahiima Sehil.) Annisaa*i 125. Alla daali Hombo yamira Nulaado makko Muhamadu yo o his yo O maaku:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ [الأنعام: 161]

(Maaku pellet Joom am feewnii kam e laawo poocongol diine pooccoowo laawol Ibraahiima ngol ooñaaki faade e fenaande, O jeyaaka e sirkube ben.) Al Anaam 161.

Quraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado muhamed yo o his, konde haala Joomiraawo ronkinnde aade en e jinnaaji ndebe addata hono makka wolla simoore waande e mum, haa jooni na ronkaa, quraana noon na jaaboo naamne kimmuƴe keewƴe weemnunooje miliyonji yimbe, quraana o na reena haa hannde e ƴemngal arab ngal mbo telli e mum ustaaka heen hay harfeere, honde muula defte kaande janngeede, wollo janngude ko eggaa e maanaaji mayre faade e ƴemde goo, ko noon kadi sunna nelaado o e siira makko na reena na egga fotde no habroobe hoolaabe kabriri nih, hombo muulaa e ƴemngal arab ngal nulaado haalatnoon mbo eggaa faade e ƴemde keewƴe, quraana e sunna, ngoni yaltirde wootere wonande ñwooje sariya islaam, sariya islaal nanngetaake e pirlitale aade en askintinatoobe e hembo, kono sariya nanngirtee ko e wahyu Alliyanke: Quraana e Sunna Nulaado.

Quraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado mum muhamed yo jam kisal won e mum, bñytawa ko e ƴemngal arab, ko ngaal woni haala Jom binnde, Alla daali:

﴿وَأَنَّهُ لَتَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾﴾

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ [الشعراء: 192-195]

(Kande dee pellet konde jippinaande ummorde to Jom binnde 192. Jippininde ko Ruuhu koolaado On 193. E bernde Ma ngam ngona e jeertinoobe. 194. E ƴemngal arabiyankeewal laabngal.195.) Assu*araa 192-195. Alla daali:

﴿وَإِنَّكَ لَلْخَلْقِ الْفُرْعَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: 6]

(E pellet, an hida lonnginee Alqur'aanaare nden immorde ka Neeño Anndudo.) Annamli 6. O doo Quraana ko tellinaado ummorde ka Alla, kombo goondindo ko adii mbo e defte, Alla daali:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 37]

(O quraana mbo wonah pepinteedo ko aldah e Alla, kono kay kombo goondindo ko adii mbo ko e defte, fencitde deftere nde sikke alah e mayre ummorde ka Joomiraawo.) Yuunis 37. Quraana tedduo o fencita ko buri heewde fiyakuuji di yahuud en luuruno e Annasaara en e nder diine mabbe, Alla daali:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: 76]

(Pellet o quraana na daara e banii Israa*iil en ko buri heewde kobe luutrunoo ko.) Annamli 76. Quraana tedduo o na soomi dallillaaji e burhaanji immindi hujja e dow yimbe hee fof fii anndude haqiiqaaji jowitiidi e Alla ceniido e diine Makko e njobdi Makko, Alla daali:

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 27]

(Gomdii Men piyanii yimbe ben, e ndee Alqur'aan, kala misal, belajo'o, be waajitora.) Ajjumur 27. Toowdo On daali:

﴿... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل:

[89

(Min tellini e dow maa deftere feññinde kala huunde e peewal e yurmeende weltaare woodani juulbe be.) Annahli 89. Quraan tedduo o na jaaboo naamne buy himmude heewde beemnude

miliynji yimbe, quraana na hollira hono Alla tagiri kammuuji e leydi, O daali:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ [الأنبياء: 30]

(Mbela heefereebe be yi*aani wonde kammuuji e leydi ndii ngonno ko takkonsirdi, Min takkatidi, Min mbaɗi ummmaade ndiyam kala huunde wuurnde, mbela be ngoondintah?.) Al Anbiyaa 30. Hono Alla tagiri nedɗo, Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّئُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَكُمُ طُمِّ وَمِنْكُمْ مَّن يَتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ عُمرٍ لِّكَيْلَا يَعْلَمِئِدْعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ [الحج: 5]

(Eehey mon yimbe si on cikkatiima ummital pellet ko Minen tagii mon e leydi refti Min mbaɗi mon tobbe refti Min mbaɗi mon hedɗere refti Min mbaɗi mon husere timmunde tagu e nde timmaani tagu ngam Min banngina on, Min ñiibna e ranngaaji ko Min kaaji haa e lajal kappaaɗo refti Min njaltina mon suko refti njottadono sattuende mon, ina e mon sankatoobe ina e mon ruttateebe e nguurndam burdam jaasde haa o waasa anndude caggal ɗuum hay huunde, hada yi*a leydi ndi hondi woni maayndi so Min telliinii e mayri ndiyam ndi dilla ndi fuufa pufi ndi fudna e kala teeltungel lobbel .) Al Hajji (5) ko hoto woni battane makko, holko woni njobdi bonnudo e peewnudo caggal ɗam nguurndam ? daliilaaji ko faati ɗam nguurndam

jantanooma e tonngoode(20) mbela goodal aduna ko nih tan ardi wolla hongal jogii faandaare teddunde ? Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ

أَقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

(Mbela be ndaaraani nguu laamu teddungu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta.) Al Aaraaf 185. Alla daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]

(Mbela on cikku ko fijirde wadi tagmi mon, mbela mbela on cikku pellet on nduttataako e Amen.) Al Muuminuun 115. Quraana teddufo o na reena haa hannnde e demngal mbo tellarii ngal, Alla daali:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

(Ko Minen tellini Quraana ko Minen reenata mbo.) Al Hijri 9. Hay harfeere wootere ustaaki e mamba, na jommbi nde yanata e mamba beñandiral ma baylagol, Alla daali:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:

[82]

(Mbela be teskataako Quraana, sinde ummino ka wonah Alla mabe taw e mayre luural keewngal.) Annisa 82. Kombo muulaad o mbo saraa, kombo deftere teddunde, ronkinde haannde janngede wolla hetteede maa janngude maana mayre eggaande faade e demde goo, ko hono noon sunna nulaado Muhamed yo o his, e siira mum deenaado o egga fotde no habroobe hoolaabe eggiri, kombo

muulaado e demngal arab ngal Nulaado haalatnoo, hombo eggaa faade e demde keewde, quraana tedduo o e sunna Nulaado ngoni iwirde wootere wonande nyaawooje islaam e sariyaaji mum, islaam nanngirtaake pirlitale yimbe askintoobe e mammba, kono islaam nanngirtee ko: Wahyu deenaado o, oon woni quraana e sunna Annabiyanke, Alla daali:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: 41-42]

(Pellet been yeddube quraana nde mbo ari e mum en, pellet konde deftere teddunde, meere aratah e mayre wonah yeesa mayre maa caggal mayre, konde tellinaande ummorde ñeeña jettaado.) Fussilat 41-42. Alla daali ko faati e sunna Annabiyanke wonde kombo wahyu ummorde ka Alla:

﴿...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾ [الحشر: 7]

(Ko Nulaado addani on nanngée dum, ko o haŋi on ngaccee, kulee Alla sabu ko O cattuŋo lepte.) Al Hasri 7.

Islaam na yamira lobbinde e jiknaabe hay sibe wonah juulbe e wasiyanaade sukaabe.

Islaam na yamira moyyande jiknaabe, Alla daali:

﴿* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آقٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾ [الإسراء: 23]

(Alla ñaawi nde on ndewatah si wonah Makko, moyyon e jiknaabe, si gooto e mum en naywii wollo kambe dido fof woto wiibe uf woto furobe haalanbe haala tedduka.) Al Israa 23. Alla daali:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ [لقمان: 14]

(Min mbaggini neddo jiknaabe mum yummakko saawi mbo e lohre e dow lohre, e enteede makko woni e nde duubi didi, nde njettataa Mi e jiknaabe ko e Am de woni wattindorde.) Luqmaan 14. Alla daali:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ [الأحقاف: 15]

(Min mbasayii neddo yo moyyu e jiknaabe mum, yumma makko saawii mbo e tampere o jibini mbo e tampere, caawgol makko e entugol makko ko lebbi 30, haa nde o yottii cemmbe makko o yottii capan tati hitaande, o wii Joom am longgin am nde njettat mi neema Maa mbo neeminda e dow am e jiknaabe am e nde ngollat mi golle lobbe belatde Ma peewnanaa mi geñol am, mi tuubii tigi faade Ma pellet ko e juulbe njeyaa mi.) Al Ahqaaf 15

Umiiima e Abuu Hurayrata yo welu Alla won e maako, o wii: Gorko arii Nulaado o wii : Nulaado hombo potmi burde lobbinande gondigal? O wii: neene ma, o wii e hombo? O maaki : neene ma, o wii refti hombo? O maaki: neene ma, o wii refti e hombo ? O maaki : Baaba ma.Sahiih Muslim.Ngol jamirgol wasiyanaade jiknaabe foti kobe juulbe wolla ngonah.Ummaade e Asmaa biy Abuu Bakri o wii:

(Neene am arii hombo woni cirkufo e yonta Quraysi en e aadi mum en tuma ndebe aadandirnoo Annabi yo o his, hombo wondi e biddo makko, naamniimi Nulaado mbiimi: Neene am arii hombo reerdi, mbela mi jokka mbo? O maaki eey jokku neene ma). Sahiih Buhaari. Haysi jiknaabe be tampii etaade waylude suko o ummaade e islaam faade e keefeeru, Islaam na yamira nde o waasata doftaade be o jokko goondinde Alla o diggana be, o wonda e mum en gondigal lobbal, Alla daali:

﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ [لقمان: 15]

(Si be tiidnorii ma fii sirkangol Lam e ko a alanaa dum ganndal, wata a dofto be; wonndir e mabbe ka aduna doo moyyere. Jokku laawol on ruttiiɗo e Am. Refti ko ka Am woni ruttorde mon, Mi yeetitoo on, ko gollaynodon.) Luqmaan 15. Islaam hadatah juulɗo nde o digganta badiibe mbo sirkube, wolla be ngonah badiibe tawde be ngonah habdiibe makko, Alla daali:

﴿لَا يَنْهَلِكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾ [المتحنة: 8]

(Alla hadaani mon be kabaani e mon be e diine be njaltinaani mon galleeji mon, nde diggantobe nuundon faade e mum en, pellet Alla na yidi nuundube.) Al Mumtahina 8. Islaam na yamira wasiyanaade bibbe buri mawnude ko islaam yamirta jiknaado ko nde o janginta bibbe mum hakkeegi Joom mum en hono no Nulaado mo jam e kisal maakiri biy baaba makko Abdullaahi Ibnu Abbaas yo weluya Alla won e makko: Eey suko wolla aan cukalel mbela mi anndintaama konngudi di Alla nafirat ma? Mbiimi eey kay. O maaki: reen Alla, Alla reen ma,

reen Alla tawaa Mbo yeesa ma, anndu Alla saanga neema, Alla wallu ma saanga satteende, si a toriima toro Alla, si a wallaniima wallina Alla. Ko Ahmad fillii mbo 4/287. Alla yamiri jiknaabe ndebe ngandinta bibbe mum en ko nafatabe e fiyaaku diine mum en e aduna mabbe Alla daali:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾ [التحریم: 6]

(Eehey mon goondinbe ndeene ko*e mon e koreeji mon e yiite docate mannge ko yimbe e kaaye ina e dow henge malaykaaji tekkudfi cattudi di ngoopatah ko Alla yamaridi te hodi ngolla ko Alla yamiridi.) Simoore Attahriim 6. Ummaade e Aliyyi yo weluya Alla won e Makko e konngol Alla Ndeene ko*e mon e koreeji mon e yiite. O wii : Ne*eebe njanngineebe. Nulaado mo jam e kisal woni e dow mum yamiri nde jiknaado jannginta biy makko juulde, ngam o nehoo heen, Nulaado maaki: Njamiree bibbe mon juulde sobe njottiima duubi jeedifi: Abu Daawud. Be maaki kadi: Onon fof ko on aynaabe, onon fof ko on naamnittebe, Imaam ko gaynaako, te ko naamnitteedo ngaynateeri makko, gorko ko gaynaako e galle mum, ko naamnitteedo ngaynateeri makko, debbo ko gaynaako e suudu jom galle makko, ko o naamnitteedo, ko o aynatno ko, liggatoodo ko gaynaako e jawdi kiliifa makko, ko naamnitteedo ko o ayninaa ko, onon fuu ko on aynaabe te ko on naamnittebe ko ngayninadon ko. Sahiih Ibnu habbaan 4490. Islaam yamarii jiknaado nde o nafqata bibbe makko e mbootu makko, en jantinooma dum e tonngoode(18) Nulaado yo O his holliti bural nafqude bibbe O maaki: Diinaar burdo labeede woni diinaar mbo gorko nafqi mbootu mum, e diinaar mbo o nafqi e daaba mum e laawol Alla e mbo nafqi e wondiibe mum e laawol Alla. Abu Qillaba wii: o adariima mbootu makko, refti Abu

Qilaada wii: alah burdo gorko nafqowo e mbootu mum tokooso njobdi Alla nafabe e duum e yondinabe.Sahiih Bukhaari 994.

Islaam na yamira nuundal to bannge bolle e kuude hasindo ko wondude aÑbe.

Alla ceniido O na sifarii nuundal e golle mum e jiiigol mum hakkunde jiyaabe mum, O woni ko e laawol peewngol ko O yamiri ko e ko O hadi ko, e ko O tagi ko e ko O hoddiri ko Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

(Alla seediima wonde pellet Alla alah si wonah kanko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, deweteedo alah si wonah kanko, kanko woni pooldo mbo fooletaake ñeeñdufo.) Aali Imraan 18. Alla na yamira nuundal, O daali:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...﴾ [الأعراف: 29]

(Maaku joom am yamarii nuundal.)Al Araaf 29. Denndaangal Nulaabe e Annabaabe yo jam e kisal won e mum en, be ngaddi ko nuundal, Alla daali:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ...﴾ [الحديد: 25]

(Ko noon tigi Min neliri Nulaabe amen bannguɗi, Min tellini e mum en deftere e peesirde ngam yimbe be ndarna nuundal.) Al Hadiid 25. Peesirgal woni nuundal e konngi e golle.Islaam na yamira nuundal to bolle e golle hay si ko wondude e aÑybe, Alla daali:

﴿بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَأَلَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ [النساء: 135]

(Eehey mon goondibe ngonee darantoobe nuundal seedatoobe sibi Alla hay si wonii e dow ko*e mon wolla e dow jiknaabe wolla badiibe mon, si o wonii gala wolla baasdo ko Alla buri haandude e mum en, wotee ndewee belaade haa mbaason nuundude, si on karlii maa duurnidon, ngannde pellet Alla na humpatti ko ngollaton ko.) Annisaa 135. Alla daali:

﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [المائدة: 2]

(Woto nganngu yimbe faliiibe gaa e masiide Alla hormaande nde had mon nuundude, mballandiree e diggere e kulol Alla, woto mballandiree e bakkaat e ngañngu, kulee Alla, pellet Alla ko cattudo lepte.) Al Maa*ida 2. Alla daali:

﴿بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا

تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ [المائدة: 8]

(Eehey mon goondinbe ngonee daraniibe Alla seediriiibe nuundal, woto añde yimbe duñ mon nde mbaasaton nuundude, nuunde ko duum buri badaade kulol Alla.) Al Maa*ida (8.) Mbela ada tawa laabi yimbe ma e diineeji mum en hono ngol jamirgol seedaade goongo e haalde goongo hay si wonii e dow fittaandu ma wolla jiknaabe ma maa boom baddibe ma, yamirde nuundal wondude e gaña wolla e gido. Nulaado yo jam e kisa won e mum na yamira nuundal hakkunde sukaabe. Ummiima e Aamir o wii: Mi nanii Nuumaan Ibnu Bassir yo

weluya Alla won e mum en,hombo woni e minbar,hombo wiya:Baaba am okkii lan dokkal,Amarata Bint Rawaahata wii:mi weletaake haa ceetna Nulaado,o ari e Nulaado wii:mi okkii biy am e Amarata Bint Rawaahata dokkale,o wii yomi ceetnuma mi aan Nulaado owii: (A okki bibbe ma fof hona dum?)O wii:alah Nulaado maaki: (Kulee Alla nuundee hakkune bibbe mon) O wii:o rutti dokkal makko ngal.Sahiih Bukhaari 2587.

Wadi noon ko fiyakuuji aade e dowlaaji ndarataaka si wonah e nuundal, hoolaare hebetaake wonande yimbe e diine mum en, yiyam mum en, geñol mum en, jawle mum en e kodorde mum en si wonah e nuundal, ko dum nde heeferbe makka tampini juulbe, Nulaado yamaribe yobe per faade Habasa, sabu na woodi toon Laamdo nuundudo mbo hay gooto toonyetaake e leydi makko hee.

Islaam na yamira labbinde faade tagu nguu fof, na nodda faade jikkuuji laabdi, e golle laabde.

Islaam na yamira moyyande jiknaabe, Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ...﴾ [النحل: 90]

(Pellet Alla na yamira nuundal e moyyinde e tottude e okkude badiido.) Annahli 90. Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُلُوبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134]

(Nafqoobe saango yaajeende e saango bittere moftoobe tikkere, yaafatoobe yimbe be, Alla de na yidi moyyinoobe.) Aali Imraan 134. Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Allaahu On Farlii moyyere e dow kala huunde. Si on waray moyyinee warugol

ngol. Si on hirsay moyyyinee hirsugol ngol. Yo gooto e mo'on welnu labi makko ki o fooftina ko o hirsata kon ». Sahiih Muslim 1955. Islaam na nodda faade e jikkuuji labaaadi e golle labaaade, Alla daali e sifaadse Nulaado yo jam e kisal ngon e makko:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [الأعراف: 157]

(Rewatnoobe Nulaad o Annabi mbobe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko lobbi O hadabe ko boni O dagnabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinanabe cadeele mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cembini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be.) Al Aaraaf 157. Be maaki kadi: Aan Aaysa Alla ko newiido hombo yidi newaare, hombo okkira newaare ko O okkirtah e ñaadre e ko o okkirtah ko wonah duum. Sahiih Muslim 2593. Be maaki kadi: Alla harmanii e mon : salanaade yummiraabe e ubbude jiwbe tawa na nguuri, O hadi on kaari wii kaarii wii, e heewde naamni e yeebaade jawdi. Sahiih Bukhaari 2408. Be maaki kadi: On naatatah Aljanna haa goondinon, on goondintah haa njidandiron, mbela Mi tinndintah mon huunde si on mbaadiinde njidondiron? caree salminaandu hakkunde mon. Sahiih Muslim 54.

Islaam na yamira jikkuuji jettaadi hono goondude e tottirde hoolaare e nefde ko boni e hersude e jaambaraagal e tottirde e teddungal,e wallude katajindo,e faabaade tampufo,e ñamminde keydufo,e laninde koddigal e jokkude endam e yurmaade kulle.

Islaam na yamira jikkuuji labaaɗi, Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum maaki: Neldaa Mi tigi ko ngam Mi timmina jikkuuji labaaɗi. Sahiih Al Adab Al Mufrad 207.Be maaki kadi: Pellet mbo burmi yidde e mon e burɗomi badaade e jonnde ñande darngo ko burɗo labeede jikku, burɗo tikkaneede e wofɗude jonde e Am ko heewbe haala e hebbinbe gabbude e mawnikiniibe, be min ngandii sarsaarin e mutashaddiquun hol ko woni mutafayhiquun? O maaki ko: mawnikiniibe. Assilsilatu Assahiihatu 791.Ummiima e Abdullaahi Ibnu Umara yo weluya Alla won e mum en, o wii: Annabi mo jam e kisal woni e mum, laatanooki jom pankare, o wonaana pankaridnoodo, Hombo maakatno: Ina jeyaa e burbe labeede burɗo labeede jikku. Sahiih Bukhaari 3559. E ko wonah dee aayeeje e jolole tinninooje wonde islaam na hirjina e jikkuuji tedduɗi e golle labaaɗe e mbaadi kuubtadinndi.Islaam na yamira goondude, Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum maaki: Mi wasiyiima mon goongo,sabu goonga na feewna e diggere diggere na feewna faade e aljanna, gorko seeratah goondo na faando goongo haa winnde to Alla goongiyanke. Sahiih Muslim 2607.Na jeyaa e ko Islaam yamirta ko: Tottirde hoolaare Alla daali :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴾ [النساء: 58]

(Pellet Alla na yamira on nde tottirton hoolaareeji faade e jom mum en.) Annisaa 58. Islaam na yamira nefde ko boni, Nulaaɗo yo

jam e kisal won e mum maaki: Tato na jojji e Alla walludebe: O jantii heen: desdo jidfo burnaade.Sunanu Attirmiiji 1655.Ina jeyanoo e du*aa Makko yo jam e kisal won e mum:Aan Alla mbeda toro Ma peewal e kulol Alla e tewaade bone e yondinaade. Sahiih Muslim 2721.Islaam na yamira wonde kersoowo, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki: Hersude ko jam tan addata. Sahiih Bukhaari 6117.Be maaki kadi:Kala diine na jogii jikku, woni jikku islaam ko kersa.Ko Bayhaqi yaltani mbo nder su*abi limaana 6/2619.Ina jeyaa ko islaam yamirta: Jaambaraagal, ittaama e Anas yo Alla wele mbo, o wii: Nulaado mo jam e kisal ngoni e makko burnoo yimbe kay burnoobe suusde buriibe wonde dokko, yimbe madiina paayiina, Nulaado woni gadiido e puccu. Sahiih Bukhaari 2820. Nulaado hombo moolotono Alla e kulol reedu, hombo maakatno: Aan Alla mbida moolo Ma e kulol reedu. Sahiih Bukhaari 6374.Na jeyaa e ko Islaam yamirta ko: Tottirde e teddungal, Alla daali :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَثْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُتْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261]

(Nafkoobe jawle mum en e laawol Alla mba*i kono abbere fudnunde butaali jeedidi kala heen wutaandu fof na soomi teemedere abbere, Alla na sowana Mbo O haajani, Alla ko jaacdo ganndal.) Al Baqara (261). Jikku Nulaado wonno ko teddungal, ittaama e Ibnu Abbaas yo weluya Alla won e makko, o wii: Ko Nulaado burno yimbe be fuldude, ko e lewru koorko fof o burnoo wonde dokko tuma nde Jibriil hawrata e Makko,Jibriil na hawratnoo e makko kala jemma ramadaan haa mbo huncoo,Nulaado aarnda mbo quraana,si Jibriil hawrii e Makko hombo wonatno burdo kenal soy soy labeede. Sahiih Bukhaari 1902.Na jeyaa ko islaam yamirta wallude katajindo e faabaade cattiraado e ñamminde keydufo e labinde

koddigal e jokkude endam e newanaade kulle de. Umniima e Abdullaay Ibnu Umar yo welu Alla won e mum en wonde gorko gooto naamniima Annabi mo jam e kisal woni e mon, o wii: Hombo islaamuuji di buri labeede ? O maaki: ñamminde ñaamdu calminaa mbo nganndudfa e mba a anndah. Sahiih Bukhaari 12. Be maaki kadi: Gorko gooto na yahatno e laawol o domdi sanne, o hebi woyndu, o telli e hendu o yari refti o yalti, tawi rawaandu na toon na laha hondu ñaama lesdi sabu domka, gorko o wii: Ndu rawaandu ndu domdarii no domdirnoo mi, o hebbini kuffu makko ndiyam, refti o nanngi e hunduko mayru, o yarni rawaandu ndu, Alla yetti mbo o yaafii mbo. Sahabaabe mbii emin jogii e kulle hee baraaaji? O maaki: eey, kala ko wadi heeñre heccere na wadi baraaaje. Sahiih Ibnu habbaan 544. Be maaki kadi: Jahanoowo mbo jom galle mum maayi e miskiin wa*i kono badoowo jihaadi e laawo Alla wolla dariido juuloowo jemm e ñalawma. Sahiih Bukhaari 5353. Islaal na teentina hakkeji endam na waddina jokkude endam, Alla daali:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: 6]

(Annabi buri haandude juulbe e pittaali mum en, suddiibe makko be ko yummiraabe mum en, jom en endam yogo e mum en buri haandude e yogo e deftere Alla hee gaa e juulbe e ferbe, si wonah de mbaadanton heedbe mon mobyyere, dum laatiima na winndaa e deftere hee.) Al Ahjaab 6. O jeertini tayde endam O sinndindiri dum e bonande e nder leydi hee, Alla daali:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ﴿٣٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

اللَّهُ فَأَصْحَابُهَا وَأَعْمَىٰ أَبْصَرُهُمْ ﴿٣٢﴾ [محمد: 22-23]

(Mbela si on nduntiima yaama bonnon e nder le leydi tayan endam mon dam tayan tayan. Ko been ngoni be Alla huɗi O fahɗinibe O wumni gite mum en. 23.) Muhamed 22-23. Nulaaɗo yo o his maaki: (Naatah aljanna tayoowo endam) Sahiih Bukhaari 2556. Endemeeje de na foti reeneede : Jiknaabe e musibbe e banndiraabe rewbe e bappa en gorgilaabe e kaawiraabe e yummiraabe sawndiibelslaam na tentini hakke koddiiyo hay si o wonii keefeero, Alla daali:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَبَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَبَارِ الْحُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ ﴿٣٦﴾ [النساء: 36]

(Ndewee Alla wotee ndenndinee Mbo e hay goota, moyyee e jiknaabe mon e badiibe mon e Alyatimeebe e miskineebe e koddiiyo badiidob e koddiiyo deestiido e gondiido sera am e datniido e jeyal juude mon, pellet Alla yidah yaayoowo basatodo.) Annisaa 36. Be maaki kadi: Jibriil seeraani na wasiyoo Mi koddiiyo haa cikku Mi ma ronnu mbo. Sahiih Abii Daawuud 5152.

Islaam dagnii laabɗi e ñaamdu e njaram, o yamiri labbinde bernde, banndu e galle, ko ɗum saabii O dagni dewgal hono O yamirnoo Annabaabe yo be kis, hoɓe njmiratnoo ko labaa.

Islaam na ñaamdu e njaram laabaadi, Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum maaki: « Alla ko Laabɗo Mo Jabataa si wanaa laabu-ɗum. Allaahu On Yamirii muumini en kon ko O Yamiri Nulaabe ben O Daali:

(Ko onon yo Nulaabe, ñaamee laabudi din gollon [golle] moyye). [Al Mu'minuun: 51]. O Daali kadi: (Ko onon yo muumini en, ñaamee immorde e laabudi di Men Arsiki on) ». [Al Baqarati: 172]. Abuu Hurayrah beyditi: Hooti Nulaado on janntii gorko juutinaynoodo setewu, wuyngudo funngitii ; mo no fonta juude mun ka asamaanu o wi'a: Ko an yo Joomi, ko an yo Joomi. Tawa non ñaametee makko on ko harmudo, njaram makko dam ko harmudam, comci makko din ko harmudi, o ne'iraama ko harmi, hol no oo doo jaabinirantee ? Sahiih Muslim 1015. Alla daali:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]

(Maaku ko hombo harmini cufaari Alla wonande jiyaabe Makko e dagiidi e arsuka, maaku diin ko fii been gondinbe e nguurdam aduna laabtudi nyande darnga, ko hono nih Min pirtirta aayeeje wonande yimbe anndube.) Al Aaraaf 32. Islaam yamarii labbinde bernde, banndu e galle, ko dum saabii mbo dagni dewgal, hono no mbo yamiriri Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, kambe hobe njamira ko moyyi, Alla daali:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72]

(Alla wadani on ummaade e ko*e mon kube O wadani on e kube mon hee sukaabe e njaatiraabe O yedi on dagiidi mbela ko meere gondinton e neemaaji Alla dii njeddaton.) Annahli 72. Alla daali:

﴿وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝﴾ [المدثر: 4-5]

(E comci Ma labbin 4. Fer goopi badɗinooji lepte. 5.) Al Mudassir 4-5. Be maaki kadi: Naatatah aljanna mbo gabbel fotde jarra e mawnakinaare woni e bernde mum, gorko gooto wii: Gorko na faalee nde comci mum e pade mum ngonata labaaɗe, O maaki Alla ko jooddo ko jiddo njoodndam, mawnakinaare ko yeddude goonga e yawaade yimbe. Sahiih Muslim 91.

Islaam harmanii lasliiji karminaadi hono sirku,keefaraagu,rewde sanamuuji,haalde e Alla ko a anndah,warde sukaaɗe,warde fittaandu harmundu warde,bonnude e nder leydi,mbilewu,pankare bannguɗe e ko wirnii, jinaa,e golle luuti en? O harmini riba,e nyaamde jiiba e ko hirsanaa sanamuuji,O harmini ñaamde mbabba tugal e tuundiji e sobeeji,O harmini ñaamde jawdi alyatiime, e ustude peese e betu,O harmi tay'de endam. Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harmude dɗi kafaadi.

Islaam na harmini asli karminaadi hono renndinde Alla e tanah Makko, keefereegal, rewde sanamuuji e haalde e Alla ko a anndah e warde sukaaɗe, Alla daali:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقِي نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمُ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[152-151] ﴿الأنعام: ١٥٢﴾

(Maaku:"Aree mi jannanga on ko Joomi mon Harmini e mon:ko nde kafidoton e Makko huunde wadanon jibimbe mon ben moyyere wota on waru bidɓe mon ben kulol immorde e baasal.Ko Menen Arsikata on e kambe.Wata on baɗto pankare den ko feeɗi e majje e ko wirnii. Wata waru wonkii ki Alla Harmini si wanaa e goonga.Ko dum moodon O wasiyii on belajoo,on haqqilay. Wata on baɗto jawdi wondudo si wanaa hara ko no ɓuri moyyirde, haa o yottoo kellefuyee makko. Timminiree etirde den e manndikirde (peesirde) no nundiri. Men fawaa wonkii si wanaa ko ki townata. Si on wowlay nundee hay si ko e hoore jom-baɗtodal. Ahadi Alla ndin hunnon. Ko dum moodon woni ko O Wasiyii on; belajo'o, on annditay.) Al An*aam 151-152 .
Alla daali:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]

(Maaku Alla harmini ko pankare ko feeɗi heen e ko wirnii e bakkaat e bewre ko aldah e goonga e nde ndennditon Alla ko O tellinaani e mum daliil e de kaalaton Alla ko on nganndah.) Al Araaf 33. **Islaam harmini warde fittaandu hormaandu, Alla daali:**

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33]

(Wata on waru wonkii, ki Allah harmini kin [warugol], si wonaa sabu hakkee. Mo tooñaama waraama, Men wadaniid heedube e makko ben doole wota non o fantin ka warugol. Pellet Kanko o wonii wallaado.) Al Israa 33. **Alla daali:**

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ [الفرقان: 68]

(e been be noddatah wondude e Alla deweteedo goo be mbaratah fittaandu ndu Alla harmini yo ndu ware si wonah goonga be njinatah, kala badɗa duum heba bakkaat.) Al Furqaan 68. Islaam harmini warde fittaandu hormaandu, Alla daali:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا... ﴿٥٦﴾ [الأعراف: 56]

وقال (wotee mbonne leydi caggal moyyinde ndi.) Al Aaraaf 56.

الله تعالى مخبراً عن النبي شعيب عليه السلام أن قال لقومه :

Alla daali hombo habra gaa e Annabi Su*aybu yo kisal won e Makko:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ [الأعراف: 85]

(Eey mon yimbe am on alah deweteedo mbo wonah makko arii e mon ko banngudi ummorde ka Joom mon timminee betu e peese wotee ustancee yimbe be gede mabbe woto on mbonnu e nder leydi he caggal ndendi feewnaa ko duum buri moyyannde on si on laatiima goondin be.) Al Aaraaf 85. Islaam harmini mbilewu, Alla daali:

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَلْبٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ

أَنَّى ﴿٦٩﴾ [طه: 69]

(Bugo ko woni kon ka ñaamo maada dum moday ko be moyyini kon, pellet, ko be moyyini kon ko pewje mbile bileejo on maletaake

nukku woo ka o ardi.) Taahaa 69. Be maaki kadi: Ndeentee jeedifi kalkooji, be wii : Aan hodi woni diin? O maaki : Sirkande Alla, mbilewu, warde fittaandu hormaandu ko aldah e goongo, ñaamde ribaa, ñaamde jawdi alyatiime, dogde ñande jihaadi e takkude juulbe rewbe goondinbe welsandiiibe kobe takkaa ko. Sahiih Bukhaari 6857. Islaam harmini pankare bannuufi e wirniidi e jinaa e luutiyankeegal, dum jantanooma ko adii e huunde ko aayeeje jantii holli wonde islaam harmanii riba, Alla daali:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البقرة: 278-279]

Eehey mon goondinbe kulee Alla accon ko heddii ko e riba si wonii ko on muuminiina. (278) Si on wafaani kolliree hare ummaade e Alla e Nulaado mum, si on tuubii woodanii ko* e jawdi mon on tooñatah on tooñetaake. (279)) Al Baqara (278-279).

Alla kammbaniraani jom goopol hare hono no O kammbirani jom riba, sabu riba na soomi yirbere galleeji e kodorde e jawle e pittaali. Islaam harmini ñaamde jiiba e ko hirsira sanam e ko nanndi heen O harmini ñaamde teew mbabba ngirja, Alla daali:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اَلْمَيْتَةَ وَآلِدُهَا وَآلُهَا وَرِجَالُ بَنَاتِكُمُ اللَّاتِيْنَ اَتَيْنَهُنَّ بِالْحُرْمَةِ اِنْ اَتَيْنَهُنَّ بِالْحُرْمَةِ فَسُقُۙ...﴾ [المائدة: 3]

(Harminaama e mon jiiba e yiyam e teew mbabba tugal e ko daknara ko wonah Alla e deddingol e lukkangol janngol ummorde dow e juwangol e ngol ponyi ñaami si wonah ngol kirsudon e

kirsangol e sanam e nde dabbariton njeɗu ngennduko Ajlaam ɗuum ko faasiqaagal.) Al Maa*ida 3. Islaam na harmini yarde sanngara e denndaangal sobeeji e tuundiiji, Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِثْمًا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣١) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَبِضَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ [المائدة: 90-91]

(Eehey mon goondinbe pellet sanngara e wure kaaye debe ndarnatnoo sara Kaaba e ngenndu- won ko sobe ko e golle seytaane jeya ndeenee ɗum ngam maledon 90. Pellet seyataane faalaa ko libde hakkunde mon ngañgu e tikkere nder sangara e wure o faddoo mon e jantaade Alla e juulde, mbela hodon kadto?.) Al Maa*ida 90-91. Soggaama e tonngoode (31) jantagol kabrugol Alla sifaaji Nulaado mo jam e kisal woni e mum nder Tawreeta wonde hombo harmini e mum en sobeeji, Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ اَلَّتِي اَلَّذِي يَجِدُونَهُ وَمَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾ (١٥٧) [الأعراف: 157]

(Rewatnoobe Nulaad o Annabi mbobe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko lobbi O hadabe ko boni O dagnabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinabe caɗeele mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be.) Al Aaraaf 157. Islaam harmini ñaamde jawdi alyatiima, Alla daali:

﴿وَعَاثُوا آلِيَتِمَّيْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾﴾ [النساء: 2]

(Totte alyatimeebe jawle mum en wotee ngostore ko sobi laabdum, wotee ñaamee jawle mum en faade e jawle mon, pellet duum woniino bakkaat mawdo.) Annisaa 2. Alla daali:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتِمَّيْ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ

سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾ [النساء: 10]

(been ñaamroobe jawdi alyatimeebe dow tooñange, pellet kobe ñaamata ko e deedi mum en ko yiite, mabe ka yiite hubboowe.) Annisa 10. Islaam harmini ustude peese e betu, Alla daali:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾﴾ [المطففين: 1-4]

(Halkaare woodanii ustoobe peese e betu. been betnatoobe e yimbe be dabba timminaneede. Sibe betaniibe wolla be peesaniibe be usta. Mbela been cikkaani mabe ummine ñalngu darnga.4) Al Mudaffifiin 1-4.

Islaam na harmini kadi tayde endameeje dum jantaama ko adii e tonngoode 31 e aayeeje e hadisaaji tinndinooji duum, Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harminde dïi karminaadi.

Islaam na hada jikkuuji bonfi hono fenaande e fuuntude e janfaade, hodaade, njanfa, haasidaagal, hodo bonngo, nygyko bewre e tooñange e kala huunde sobnde.

Islaam na hada jikkuuji bonfi e mbaadi kuuftadinndi, Alla daali:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ﴾

[فُحُورٍ ﴿١٨﴾] [لقمان: 18]

(Wata fal yimbe ben yeeso maa ngon, wata a yahru ka leydi ñaayagol. Pellet, Alla yidaa kala ñaayotoodo mantoo.) Luqmaan 18. Be maaki kadi: Pellet mbo burmi yidde e mon e burdomi badaade e jonnde ñande darngo ko burdo labeede jikku, burdo tikkaneede e woddude jonde e Am ko heewbe haala e hebbinbe gabbude e mawnikiniibe, be min ngandii sarsaarin e mutashaddiquun hol ko woni mutafayhiquun? O maaki ko: mawnikiniibe. fAssilsilatu Assahiiha 791. Islaam na hada fenaande, Alla daali:

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾﴾ [غافر: 28]

(Alla feewnatah oon burtindo penoowo.) Gaafiri 28. Be maaki kadi: Ndeene fenaande sabu fenaande na nawma e faajiraagal faajiraagal na feewna e yiite, gorko seeratah na fena na faando fenaande haa o winnde ka Alla ko o penoowo. Sahiih Muslim 2607. Be maaki kadi: Maande naafiqe ko tati: Si o yeewtii o fena, si o fodii o lunndo, si o hoolaama o janfoo. Sahiih Bukhaari 6095. Islaam na hada fuuntude. Aarii e hadiis wonde Nulaado Alla yo jam e kisal ngon e makko wirtiima gennduwel ñaamde o naatni junngo makko e hengel, leppendi hebi pedeeli mum, o maaki: Ko dum woni jom ñaamdu? o wii: Ko tobo hebindu aan nulaado Alla, O maaki: Ko hadmaa dum wadde e dow ñaamdu he haa ymbe be nja* a dum, kala puuntuɗo amen jeyaaka e amen. Sahiih Muslim 102. Islaam na hada hodo e njanfa, Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنفال: 27]

[27]

(Eehey mon goondinbe woto njanfaɗe Alla e Nulaaɗo njanfaɗon ko koolnaɗon mon tawa hoɗon nganndi.) Al Anfaal 27. O daali

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: 20]

(ben hunnoobe ahadi Alla ndin, be firtataa ahodal(hoolaare).) Arraad 20. Nulaaɗo mo jam e kisal woni na wiyatnoo konuujji Makko sidi njalta: Kone woto on pantin wotoo njanfee wotee muusnee wotee mbaree cuklel. Sahiih Muslim 1731. Be maaki kadi: Gede nay mbode ngoni e mum wona naafiye laabtudo, kala mbo gootel e majji woni e mum, wona e mum gedel e naafiqaagal haa o acca ngel: Si o tottaama hoolaare o njanfo, si o yeewti, o fena, si tottii aadi o janfo, si o dukdaama o yawta keerol. Sahiih Bukhaari 34. Islaam na haɗa haasidaagal, Alla daali:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 54]

(Mbela be kaasidoto yimbe ko Alla okkiɓe ko e bural Makko, Min tottii Ibraahiima defre e ñeeñal Min tottiɓe laamu mawngu.) Annisa. 54. Alla daali:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 109]

(yidii heewbe e yimbe defte en ndebe nduttata mon caggal nde ngoondin don ngonton heefereeɓe haasidaabe to banng e mum en caggal de googna feenñni on, njaafee njarlaɗon haa Alla adda yamiroore Mum, pellet Alla ko kattando kala huunde.) Al Baqara. 109. Be maaki kadi: Rubii faade e mon ñaw dente ngadiife:

Haasidaagu,tikkere laboore mi wiyaani laboore sukundu kono ko laboore diine, Mi woondarii mbo fittaandu am woni e Junno Mum, on naatatah aljanna haa ngoondinon on ngoondintah haa njdandiron, mbela hafratah on ko tabitinanta mon duum? caaktee salminaandu hakkunde mon. Sunanu Attirmijji 2510.Islam na hada hodaade, Alla daali:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّحْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ [الأنعام: 123]

(Ko hono noon Min mbaɗi e kala wuro mawbe banndijji manngo, haa be kodo e hengo, be kodotaako si wonah ko*e mum en kono be tinatah.) Al Anaam 123. Alla habri wonde Yahuud en etinooma warde Masiih mo jam e kisal ngoni e Mum, be kodii kono Alla fewjanibe, Alla holliri wonde hodo bonngo ko e joom mum tan yanata, Alla daali:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [آل عمران: 52-55]

(Nde lisaa so'unoo keeferaaku ngun e mabbe,o maaki:"Ko hommbo wallata lam e [diina] Alla [kan]?"Hawaaruyan'ko'en wi'i:"Menen ko men walloobe [e diina] Alla [kan],men gomɗinii Alla,seedo wonde ko men jebbiiliibe". Joomi amen, men gomɗinii ko jipindaa kon, men jokkii Nulaado on. Winndu men e seediibe ben 53. Be fewji Alla kadi fewji.Ko Alla Buri Moyyude e fewjoobe ben. (Janto) nde Alla daalunoo:"Ko an yo lisaa, Min ko mi hunnoowo ma e

bamtoowo ma faade ka Am,e Labbinoowo ma e ben yeddube,(Mi Wada ben jokkuba ma e hoore ben yeddube haa Ñalnde Darngal. Refti ko faade ka Am woni ruttorde mon,Mi ñaawa hakkunde mon ko luutondirayno-don e muudum.) Aali Imraana 52-55. Alla habri wonde yimebe Annabi Saalihi faalanoomo warde Mbo e hodo, be kodii hodo, Alla fewjanibe O yirbinibe kambe e yimbe mum en fof, Alla daali:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾﴾ [النمل: 49-51]

(be ngoondandiree ma on kollir dum e koreeji makko, refti ma min mbiyan keedo makko min ceedaaki halkaare koreeji makko, pellet ko min goondube. be kodii hodo, Min kodii hodo, pellet ko Minen njirbini be kambe e yimbe mum en tawi be tinaani. Ndaar hono wonnoo batte hodo mum en pellet Min njirbaniib e kambe e yimbe mum en denndaangal.51.) Annamli 49-51. Islaam na hada nguyka, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki: Jinoowo jinatah saango nde o jinata nde hombo wini goondini, gujjoowo wujjatah nde o wujjata ndee tawa hombo goondini, jaroowo yaratah tumo nde o yarata nde tawa hombo goondini, tuubuya noon na holliraa caggal duum. Sahiih Bukhaari 6810. Islaam na hada bewre, Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٩٠﴾﴾ [النحل: 90]

(Pellet Alla na yamira nuundaal e moyyinde e okkude badiido na hada pankare e ko sariya aña e bewre, hombo waajoo mon yaamo joo ciftaron.) Annahli 90. Be maaki kadi: Alla wahyiima e Am yo on

njankina, haa gooto e mon waasa yawtude keerol, gooto e mon waasa wasaade e dow goddo o. Sahiih abi Daawuud 4895. Islaam na hada tooñan gee, Alla daali:

﴿...وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 57]

(Alla yid'ah tooñoobe.) Aali Imraan 57. O daali:

﴿...إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 21]

(Pellet O malnatah tooñoobe.) Al An Aam 21. O daali:

﴿... وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: 31]

(Tooñoobe be O heblani be lepte muusde.) Al Insaan 31. Be maaki kadi: Tato noddaandu mum en ruttetaake: Imaam nuundudo e koordo haa o humto e noddaandu tooñaado hondu roonde e duule dame kammuuji uddite, Alla daala, e teddungal Am ma Mi wallu ma hay si ko caggal dummuna. Ko muslim yaltani mbo (2749) hombo tonnga e luural setta, e Tirmijiyu (2526) e luural setta, e Ahmad (8043) ko kanko woodani ngol konngol. Tumo nde Nulaado nulnoo Mu*aaj faade Yaman ngam o nodda faade e Islaam, o maaki: Reenta du*aaw tooñaado sabu heedo alah hakkunde mammo e Alla. Sahiih Bukhaari 1496. Be maaki kadi: Kala tooñdo ahdandiraado wolla o firti ahdi wolla o fawi mbo ko o hattanah wolla o nanngi e mum huunde ko aldah e mbelamma fittaandu ko Miin o hujjandirta ñande darnga. Sunnaaji Abii Daawuud 3052. Islaam na hada kala jikku cobdo wolla gollondiral gondungal e tooñan gee.

Islaam na haɗa gollandire jawdi gondufe e riba wolla lorla maa puunti wollo tooɗanɗe wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kuɓtadinndi e dow renndooji e biɓbe leydi e teelduɗo.

Islaam na haɗa gollandire jawdi gondufe e riba wolla lorla maa puunti wollo tooɗanɗe wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kuɓtadinndi e dow renndooji e biɓbe leydi e teelduɗo. Aayeeje e hadisaaji karminooji riba e toonyanɗe e puunti e bonande ka leydi benniina e tayre adiinde, Alla daali:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

[الأحزاب: 58]

(Lorloobe juulbe worbe e juulbe rewbe ko be paggitaaki been de ndoondiima fenaande mawnde e bakkaat bannguɗo.) Al Ahjaab 58. Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

(Kala golluɗo ko moyyi ko hoore mum o gollani, kala bonnuɗo ko e dow mum artata, Joome wonah tooɗoowo jiyaabe be.) Fussilat 46. Aarii e sunna Nulaaɗo mo jam e kisal woni e dow mum, o ñaawii wota a lor wota a lore. Sunan Abii Daawuud. Be maaki kadi: « kala on gomɗinɗo Alla e Ñalaande cakkitiinde nden, yo o wowlu moyyere maa o deyya. Kala on gomɗinɗo Alla e Ñalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin koddiijo makko ngal. Kala on gomɗinɗo Alla e Ñalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin kodo makko on ». Sahiih Musim 47. Be maaki kadi: Debba leptiraama ullundu ndu o soknoo haa ndu maayi, o naatnaa yiite, sabu o ñimminaani ndu o yarnaani ndu, o sokndu o accaani ndu ndu ñaamoyi kuule leydi. Sahiih Bukhaari 3482. dum ko

lordo ullundu, hono lordo yimbe noon wa*ta, ittaama e Ibnu umar o wii: Nulaado wonii e dow minbar O noddii sawtu toowdo, O maaki: Eehey mon jebbiliriibe demde be iimaan yottaaki e berde mum en wotee loree juulbe wotee ngaybineebe wotee ndewindee awraaji mum en, sabu kala dewindiido awra musiddo makko, Alla rewindoo awra makko, mbo Alla rewindii awra makko O hoyna mbo hay si o woni e nder hirke makko, o wii: Ibnu Umar ndarii faade e suudu wolla faade Kaaba o wii: Ndaw ko tddudfa ndaw ko hurum ma mawni, kono ko neddo bur ma hurma ka Alla. Ko Tirmijii yaltani mbo (2032) e Ibnu Habbaan(5763) Be maaki kadi: « kala on gomdindo Alla e Nalaande Sakkitiinde nden, woto o lorlu koddijjo makko, Kala on gomdindo Alla e Nalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin koddijjo makko . Kala on gomdindo Alla e Nalaande Sakkitiinde nden, yo haal ko moyyi wollo o sukko ». Sahiih Bukhaari 6018. Ittaama e Abuu Hurayrata ummaade e Annabi yo jam e kisa won e mum maaki: Mbela hodon nganndi pellisaado? be mbii pellisaado e amen woni mbo alah mbuudu alah kaake. O maaki: pellet woni pellisaado e lenyolam ko gaodoowo nande darnga koorko e juulde e askal, o ara hombo yenni o, hombo tukki o, hombo nyaami jawdi o, o joddinee oya yoftoo e moyyi makko, si moyyi makko ngasii ko adii nde yobata ko fwii mbo ko e goopi, goopi mabbe nanng e mbeddee e dow makko, refti o werlee e yiite. Ko muslim yaltani mbo(2581) e Tirmijiyuu (2418) e Ahmad (8029) ko kanko konngol woodani. Nulaado Alla maaki: Catal lekki woniino e laawol hongal lorla yimbe, gorko gooto itti ngal, o naatna aljanna. Bukaari yaltanii mbo(652) e maana mammba, e muslim(1914) ko wa*i noon e Ibnu Maaja (3682) e Ahmad (10432) konngol ngol woodaniibe, ittude ko lorata e laawol na naatna aljanna, hono njirudfa loroowo yimbe bonno nguurndam mum en.

Islaam arii reende hakkille, mbo harmini kala ko bonnata mbo hono yarde dolo, Islaam bamtii daraja hakkille, mbo wadi mbo yoworde pawe de Alla fawata aade, mbo rimfdini mbo e tonngi ko yaadaani e hakkille e sanamuuji. Islaam alah sirruuji ma ñaawooje keeraniide hinnde gaa e wonnde, kala sariyaaji hembo na hawri e hakkille celludo te hodi njaadi e nuudal e nyeenyal.

Islaam arii reende kakkille mbo bamti tolnde hembo, Alla daali:

﴿... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]

(Pellet neddo ko naamnittedo nande e jiide e bernde dñee fof ko o naamnitteedo de .) Al Israa 36. Na waddii e neddo nde o reenata hakkille makko,ko dum saabi harmineede sanngara e dorog,karmugol sanngara jantaama e tonngoode (34)na heewi e aayeeje qurana gasrooje e konggol toowdo:

﴿... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]

(Yaama kakkilon.)Al Baqara 242. Alla daali:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام:

[32

(Aduna wonaani si wonah ko fijrde e belaade, ko galle laakara buri labaneede wonande hulbe Alla mate on kakkiltah.) Al Anaam 32. Alla daali:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]

(Min tellanii mbo quraana arbiyanke ngam kakkilon.) Yuusuf 2. Alla holliti wonde peewal e ñeeñal naftorta dum tan ko jom hakkilleeji ko been mbiyetee ulul albaabai, Alla daali:

﴿يُوتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]

(Alla na totta nyeenyal Mbo haajani, kala tottaado ñeenyal tottaama bural manngal siftortah dum si wonah joman en hakkillaaji.) Al Baqara 269. Ko dum wadi Islaam wadi hakkille wonde faworde ko fawe tee e neddo, Nulaado yo his maaki: Kudol bambaama e tata: daaniida haa fina, suko haa hoydito e kaangaado haa hakkila. Bukaari o yowitiri mbo e tafngo fellitde ko adii hadiis (5269) O yaltani mbo hombo jokka e Abuu Daawuud (4402) ko kanko woodani lafju o, e Tirmijiyuu (1423) e Nisaa*ii nde (ASUNANUL KUBRA) (7346) e Ahmad (956) e luural setta, e Ibnu Maaja. na tonnga. Rimdini mbo e tonngi jibuyaaji e sanamuuji, Alla daali hombo habra fiyakuuji leyyi nanngitinoodi e jibuyaaji e salaade goongo gardudo ka Alla:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 23]

(Ko hono noon Min nelaani e wura e jeertinoowo si wonah wiya neemiibe wuro ngo, pellet min tawii baabiraabe e dental ko batte mum en min ñeemtinta;) Ajjukhrufi 23. Alla daali hombo habra gaa e Annabi Ibraahiim yo kisal won e Makko:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾ [الأنبياء: 52-53]

﴿عَبِيدِينَ﴾ [الأنبياء: 52-53]

(Holko woni dii nanndinaadi di uufnani don. 52. be mbi min tawii baabiraabe amen na ndewadi. 53.) Al Anbiyaa 52-53. Islaam ari yamiri yimbe accude rewde sanamuuji, e accude jibuyaaji donaadi e baabiraabe e taaniraabe, mbo yamiri rewde laawol Nulaabe yo jam kisal won e dow mum en. Islaam alah ñaawooje keerinaade hinnde gaa e wonde. Aliyyu Ibnu Abii Taalib biy baaba mum Nulaado e jom galle biy Nulaado Faatima: Mbela won ko Nulaado heertirani on e huunde? O wii Nulaado heerinaani amen huunde nde huftidinaani yimbe fof tawi wonah ko woni e wana jaasi am ki: O yaltini heen derawol na winnda heen Alla hudii kirsirɗo ko wonah Alla gujjuɗo manaar leydi Alla hudii kuɗɗo jiknaado makko Alla hudii moolɗo pepintooɗo e diine ko alah heen. Sahiih Muslim 1978. Denndaangal ñawooje islaam e sariyaaji mum na yaadi e hakkille e nuundal e ñeeñal.

Diineeji meere si sukkube mum faamaani ko woni e mum e beñandiral ngal hakkillaaji cellubi calato, kono tan won e heyniibe diine pawo e hakkillaji sukkubɗo e mum en wonde diine woni ko dow hakkille, alah do rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko fooyninta laawol hakkille, jom en diineeji meere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati.

Diineeji meere si sukkube mum faamaani ko woni e mum e beñandiral ngal hakkillaaji celluɗi calato, kono tan won e heyniibe diine pawo e hakkillaji sukkube mum en wonde diine woni ko e dow hakkille, alah do rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko fooyninta laawol hakkille, jom en diineeji meere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon

faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati, Alla daali:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾ [الشورى: 52]

(Ko hono nih Mbahyii faade e ma ruuhu e yamiroore Amen, a annadaana ko woni binndol wolla iimaan kono Min mbadaniimo ma annoore emin peewna heen mbo Min kaaja e jiyaabe Amen, pellet ana feewna e laawo pocusingol.) Assuuraa 52. Wahyu Alliyanke na soomi burhaanuuji e hujjaaji peewnooji hakkille kisdoo faade goongaaji dímbo faala annude e goondinde mbo, Alla daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾﴾ [النساء: 174]

(Eehey mon yimbe arii e mon daliil ummaade e Joomi mon, Min tellinii faade e mon annoore banngunde.) Annisaa 174. Alla faalaa ko yo neddo wuur e peewal e ganndal e goonga, seytanuuji e walladiibe paala ko yo neddo hedda e nibe keefaraagu e majjere e wemmbeede, Alla daali:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ... ﴿٢٥٧﴾﴾ [البقرة: 257]

(Alla woni keeda been goondinbe O yaltinabe e nibe faade e annoore, been yeddube noon ko keeda mum en Taaguut duum woni kala rewete ko wonah Alla, hobe yaltinabe e annoore faade nibbe.) Al Baqara 257.

Islaam na mawnina ganndal cellungal na hirjina e witto ganndal ngal wondaani e belaade, hombo noddo faade ndaarde e mijaade e nder ko*e men e winndere wonnde sara men, e njencudi ganndal cellundi luutandirtah e islaam.

Islaam na teddini ganndal cellungal, Alla daali:

﴿...يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

﴿[المجادلة: 11]﴾

(Alla na bamta darajaaji been goondinbe ummaade e mon, e been tottaabe ganndal, Alla na humpatii ko golloton ko.) Al Mujaadala 11. Alla sinndindiri seede anndube e seede Makko e ceedagol malaykaaji Makko ko buri mawnude ko seedete, Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقِسْطٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

﴿[العزیزُ الْحَكِيمُ ١٨]﴾ [آل عمران: 18]

(Alla seediima wonde pellet Alla alah si wonah kanko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, deweteedo alah si wonah kanko, kanko woni pooldo mbo fooletaake nyeenydufo.) Aali Imraan 18. Ko nih feeñrata tolnde jom en ganndal nder islaam, Alla yamiraani annabi Makko Muhamed yo jam e kisal ngon e makko dabbuude beydaneede huunde si wonah ganndal, Alla dali :

﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

(Maaku joom am beydam ganndal.) Taahaa 114. Be maaki kadi: Kala naatdo e laawol hombo dabba heen ganndal, Alla newna mbo laawol faade aljanna, pellet malaykaaji na lelna bibje majji weleede dabboowo ganndal, dabboowo ganndal kala ko woni e kammuuji e

leydi na torono dum yaafuya haa e lidfi nder ndiyam, bural gannda e dow dewoowa ko hono no lewru wa*i e denndaangal koode, pellet anndube ngoni ronoobe annabaabe, pellet annabaabe ndonnatah diinaar wonah mbuudu, kono be ndonnata ko ganndal, mbo dañi ganndal danyii gedal keewngal. Ko Abuu Daawuud yaltani mbo(3641) e Tirmijiyu(2682) e Ibnu Maaja (223) ko kanko jeyi ngol kongol, e Ahmad (21715).Islaam na hirjina e witto gannal teeldunga e belaafe, hombo nodda faade e ndaarde e miijaade e nder pittaali men e nder ndee winndere sara men Alla daali:

﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53]

(Ma Min kollube aayeeje Amen e jookli e nder ko*e e mum en haa feeñana be ko kanko woni goonga tigi, mbela yonaani Joom ma ko kanko woni ceediido e kala huunde.)Fussilat 53. Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

(Mbela be ndaaraani nguu laamu teddngu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta.) Al Aaraaf 185. Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9]

(Mbela be njahaani e nder leydi be ndaara hono batte been adiibe be, ko kambe burnoobe sattude doole e batte be mbattini e leydi be

nguurni ndi ko buri kobe nguurni ndi ko, Nulaabe mum en ngaddaniibe banngudi, Alla wonaana toonyoowo be kono ko kambe tooñata pittaali mabb.) Arruum (9). E njeñcudi ganndal cellundi ndi luutandiraani e islaam,ma en njnta heen yeru gooto mbo quraana fenciti fiyaaku mum ko adii duubi ujunere, ganndal kesal anndi. dum ko sakkatii ko,njenycudi ganndal ari na hawri e ko ari ko e quraana, duum woni tagde liiryel e nder reedu neene mum,Alla daali:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا
 الْنُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
 آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾﴾ [المؤمنون: 12-14]

(Min tagii aade e cengalawal ummaade e loopal 12. Refti Min mbađi mbo hedđere e ñiibirde hubandiinde. 13. Refti Min tagi tobbere nde hedđere Min mbatti hedđere nde husre, Min tagi husre nde yi*al Min min muurdi yi*al ngal teewu refti Min puđđi tagu goo, Alla barkanii burđo labeede e tagoobe 14.) Al Muuminuun (12-14)

Alla jabatah barjatah golle si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini Nulaa do makko, Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini ko, hono aade yeddirta Alla refti o joorto nde okkata mbo mbelnaari? Alla jabantah iimman hay gooto si wwonah o goondin annabaade fof, o goondini wonde muhamadu ko nulaado.

Alla jabatah O barjatah golle ñande laakara si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini nulaabe Alla be fof, Alla daali:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿19﴾ [الإسراء: 18-19]

(Kala faalado yaawnaneede Min njaawnana mbo ko Min muuyi ko heen, wonande mbo min muuyi refti min mbaɗana mbo jahannama hombo sumee heen hombo woni nyinyaado diiwaado e yurmeende Alla. 18. Kala paalaado laakara o gollanii mbo golle makko tawa hombo goondini been de yahdu mum en na yettaa.) Al Israa 18-19. Alla daali:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ (94) [الأنبياء: 94]

(Kala golludo golle labaaɗe hombo goonindi, oon yeddantaake yaadu makko, pellet ma Min mbinndan mbo ɗe.) Al Anbiya 94. Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini, Alla daali:

﴿... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (110) [الكهف: 110]

(Kala joortiido hawrude e Joomi makko yo o gollu golle labaaɗe woto o renndin dewal mum Alla e hay gooto;) AL Kahfi 110. O holli wonde golle labetaake si wonah ɗe Alla sariyini, te kadi jom majje wona labbindo ɗe fii Alla te hombo goondini Alla e Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, kono mbo golle mum wonah duum, Alla daali:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (23) [الفرقان: 23]

(Min ngari e kobe ngolluno e golle, min mbaɗiɗe punndi(nduggu) caraandi.) Al Furqaan 23. Alla daali:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢٣﴾ غَامِلَةٌ تَأْسِبُ كُلُّهَا ﴿٢٤﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٢٥﴾﴾ [الغاشية: 2-4]

(E geece koyɗe nyande heen. Gollooje tampuɗe. Na sume e jaynge wulnge (4).) Al Gaasiya (2-4) Geece de na koyi nummorde e golle, kono de ngollatno ko aldaɗ e peewal ummorngal ka Alla, Alla waɗi battane majje ko jaynge, sabu de ngollir ko Alla sariyinaani, kono de ndewi ko dewgol meere, be cukki e ko* e majjere deen cosatnoobe be diineeji meere, golle labaaɗe jabaade ka Alla woni kawruɗe ko Nulaado addi ko hono neddo yeddirta Alla o joortoo nde Alla yobata mbo ko labaa?Alla jabantah iimaan hay gooto si wonah o goonɗin Annabaabe fof o goonɗina nulal Muhamed, en kaaliina yogo e dallilaaji e duum e tonngoode (20) Alla daali:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفِرُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: 285]

(Nulaado goonɗinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoonɗinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndataɗ hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.) Albaqara 285. Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَالْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: 136]

(Onon goonɗinbe ngoonɗinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jedduɗo

Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaabe Mum e ñalawma cakkitiido o majjii majjer woddunde.) Anniss 136. Alla daali:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

(Tuma nde Alla nanngi aadi e Annabaabe nd ngaddan Mi mon deftere e ñeeñal, refti ari e mon Nulaado goondindo ko ngondudon ko, ma on ngoondin dum mballon mbo, o wii mbela on qirriima aadi Am o e duum, be mbii min qirriima, O wii ceedee Miin mbedo seedadoo e mon.) Aali Imraan 81.

Woni faandaare nule Alliyankooje konde: Islaam diine goongo o bamtata aade haa o wona maccudo Alla tigi, mbo rimdina mbo e maccungaagal rigi e jibuyaaji, islaam senintah aade en bamtabe dow darajaaji mum en, mbo wadataabe Allaaji;

Woni faandaare denndaangal nule Alliyankooje ko: nde diine goongo bamtata aade, o wona maccudo Alla tigi, islaam na rimdina aade e maccungaagu jawdi e jibuyaaji, Nulaado mo jam e kisal woni e makko maaki: **Malkisaama maccudo diinaar e mbuudu e qadiifa e khamiisa, si o rokkaama o welto si rokkaaka o weltataako.** Sahiih Bukhaari 6435. Neddo peewdo wonatah lorkinaniido si wonah Alla, jawdi e koongu e palaas e leñol fof wadataa mbo maccudo, e ngol tinndol na huncana janngoowo o, no yimbe mbaano ada ko nual e hono be mbattini. Nde juulde adinoode pernoo faade Ecoppi, laamdo leydi ndi naamniide, oon woni Najaasi, o wii: Hombo woni o diine ceerndudo on e yimbe mon, te on naataani e diine am wolla diine

mofté goo?Jaafar Ibnu Abii Taalib wii: Eehey ma laamdo min ngonno ko jaahiliyankoo- be, rewoobe sanamuuji, ñaamoobe jiiba, jinoobe tayoobe endam, bonbe e hoddiibe, cemmbindo ñaama lohdo, min ngoni e duum haa Alla neli faade e amen nulaado ummiido e amen mbo min nganndi asko makko e goondugol makko e hoolaare makko, e burnaade mbo, o noddí amen faade e tawhiid Alla e rewde Mbo, e accude ko min ndewatno minen e baabiraae amen ko wonah Alla, ko wa*i na kaaxe e sanamuuji, O yamiri amen goondude e yeewtere e tottirde hoolaare e jokkude endam e labinde koddigal e accude ko harmi e diiyam, O hadi amen pankare e haalde fenaande e nyaamde jawdi alyatiime e tukkude deeniido, O yamiri min nde min ndewata Alla kanko tan, min mbaasa Mbo renndinde e hay huunde, o yamiri amen juulde e askal e koorko. o wii: O limtani mbo gedé islaam min goondani mbo min ndewi mbo ko o addi ko, min ndewi Alla, min mbaasi renndinde Mbo e huunde, min karmini ko o harmini e dow amen min ndakni ko o daknani amen; Ahmad yaltani mbo(1740) e luural setta, e Abuu Na*iim nder(HILYATUL AWLIYA) (1/115) na tonnga.Islaam hono no paamirtaa senintah aade en mbo toownabe dow daraja mum en mbo waddataabe Allaaji e reweteedi.Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٠٤﴾

(Maaku:"Ko onon yo yimbe Defte,aree e konngol fotayngol hakkunde amen e mo'on:wonnde en rewataa si wanaa Alla,en kafidataa Mo e huune wata yoga e me'en jogitor yogo Joomi-raabe ko woori Alla".Si be huccitii,wi'ee:"Seeditee wonnde menen ko men jebbiliibe".) Aali Imraan 64. Alla daali:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل

عمران: 80]

(O yamirtaa on jogitorgol Malaa'ikaabe ben e Annabaabe ben reweteebe. E O yamiray on keeferaaku, baawo nde laatinodon jebbiliibe?) Aali Imraan 80. Be maaki kadi: Wotee nguttee kam honono Nasaaraa en nguttiri Ibnu Maryama, Miin de ko Mi maccudo makko, mbi*ee maccudo Makko e Nulaado Makko. Sahiih Bukhaari 3445.

Alla sariyinii tuubde ko duum woni: ruttaade neddo e Joom mum e accude bakkatuuji, islaam na yirbina ko adinoo mbo e bakkatuuji, tuubaabuya na itta ko adinoo dum e bakkatuuji, haajaraani qirraade bakkatuuji yeesa yimbe.

Alla sariyanii tuubgol e islaam ko duum woni: ruttaade e Joom mum e accude goopi, Alla daali:

﴿...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]

(Ndutte e Alla onon fof juulbe mbela joo maledon.) Annuur 31. Alla daali:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104]

(Mbela be ngandah Alla na jaba tuubaabuya e jiyaabe Makko, hombo nannga sadakaaji pellet Alla ko jaboowo tuubaabuya ko O jurmatoodo.) Attawba 104. Alla daali:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]

(Ko kanko woni jaboowo tuubaabuya e jiyaabe Makko hombo yaafoo bondi hombo anndi ko mbadaton ko.) Assuura 25. Be maaki kadi: Alla buri sattude weltaare e tuubgol jiyaado Makko goondindo e gorko gondo e leydi kalkoori hombo wondi e daaba makko gondudo e ñaamdu e njaram makko,o daani o fini o tawi mbo yahii,o dabbi mbo haa domko hefti mbo,refiti o wii: mi ruttoto e nokku ngonnoo mi, mi daano haa mi maaya,o fawi hoore mum e seemde makko ngam o maaya,o fini o tawi daaba mum doon hombo wondi e njooba e ñaamdu e njaram makko,ko Alla buri sattude weltaare e maccudo goondindo e oon gorko jiitudo daaba mum o. Sahiih Muslim 2744. Islaam na yirbina bakkatuuji gadiidi mbo, tuubuubuya na momta bakkatuuji gadiidi, Alla daali:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38]

(Maakan ben yeddube: si be hadtike; be haforante ko yawti. Si be ruttiima, haray gomdii laawol adinoobe ben yawtii.) Anfaal 38. Alla noddii nasaaraa yobe tuub, O daali:

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 74]

(Mbela be nduttataako e Alla, be dabba e Makko yaafeede, Alla ko jaafatoodo jurmotoodo.) Al Maa*ida 74. Islaam reerdini denndaangal woopbe e bakkodinbe nde be tuubata, Alla daali:

﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]

(Maaku eehey mon jiyaabe Am fantinbe e dow ko*e mum en, wotee pibtee yurmeende Alla, pellet Alla na yaafu denndaangal bakkatuuji, ko Kanko woni jaafatoodo jurmotoodo.) Ajjumur 53. Nde Amru Ibnul Aas faalaa naatde islaam, o huli nde o waasat yaafeede bakkatuuji mum di o golli ko adii islaam, Amru wii hombo haalana men ndee darnde:Nde Alla werlii e bernde am islaam o wii: Ngarmi e annabi yo o his ngam O soodandira e am, O werti junngo makko faade e am mbii mi: Mi soondandirtah e ma haa ñaafadaa mi ko mbaɗmi ko e bakkat, o wii: Nulaad maaki : Aan Umar mate a anndah fergo na momta bakkatuuji gadiidi fergo ngo, Aan Umar mate a anndah wonde fergo na momta bakkatuuji gadiidi ngo. Ko muslim yatani bmo(121) hombo juutna hono noon, e Ahmadu (17827)

E nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heedo, a hatajinaani nde gooto wonata hakkunde ma e Joome, islaam na hada nde mbaɗaten aade deweteedo wollo renndube e Alla e Alliiyankeewal Makkoe he ma ko O heeranii ko e reweede;

E islaam haajaraaka nde aade qirratoo goopi makko e yeese aade, e nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heeda, hatajinaaka e goddo ngam wona hakkunde ma e joom ma, ko hono no yawtiri e tonngoode (36) Alla noddii denndaangal yimbe ndebe nduttotoo e Makko, O hadi yimbe nde nde nanngirta malaykaaji wolla annabaabe wonde hakkunde Alla e e jiyaabe Makko, O daali:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَبَأَمْرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ [آل عمران: 80]

(O yamirtaa on jogitorgol Malaa'ikaabe ben e Annabaabe ben reweteebe. E O yamiray on keeferaaku, baawo nde laatinodon jebbiliibe?) Aali Imraan 80. Islaam na hada nde aade nanngirtee Alla wolla renndude e Alla e jeyal Makko e Alliyakeewal Mum, Alla daali:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

إِلَٰهَا وَاحِدًا إِلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ [التوبة: 31]

(Be jogitike cernoobe mabbe e ruudiiibe mabbe reweteebe ko woori Alla, e Mema-sella gedal Maryama. Be yamiraaka si wonaa rewugol reweteedo gooto. Reweteedo alaa si wonaa Kanko. Senayee woodanii Mo e kon ko be sirkaa ko.) Attawba 31. Alla yeddii heeferbe kobe jogitto ko jokkorde hakkunde mabbe e Makko, Alla daali:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ

اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ [الزمر: 3]

(Ko noon de woodanii Alla diine laabtudo, been jaggirbe tanah Makko waliyaabe min ndewataabe si wonah yobe badin amen malal pellet Alla ko ñaawoowo hakkunde mum ennder kobe luutraatnoo ko, pellet Alla feewnatah kala gondo penoowo keefeero.) Ajjumur 3. Alla holliri wonde wasaniyankoobe -jaahilii en- na njogotono jokkorde hakkunde mum en Alla be mbi*a: been badnabe Alla. Si Alla hadii aade en nde nanngirta Annabaabe e malaykaaji jokkorbe hakkunde Makko e jiyaabe Makko, tanah mum en buri waasde haandude wonde jokkorde hakkunde Alla jiyaabe Makko, Annabaabe e Nulaabe na yaawnoo ngam badaade Alla, Alla daali

﴿... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعْبًا وَرَهْبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خٰشِعِينَ ﴿١٠﴾ [الأنبياء:

[90]

(na habra alhaali Annabaabe e NulaabePellet hobe njaawnatonoo e moyyi hobe noddatonoo Amen reerdude e kulol be ngonniino hulbe Alla.) Al anbiyaa 90. Alla daali:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ...﴾ [الإسراء: 57]

(Ko been ngoni noddooobe dabbooobe faade e Joomi mum en jokkorgal hombo e mum en buri badaade hombe joortoo yurmeende makko, hombo hula lepte makko, pellet lepte makko de ko deentaade.) Al Israa 57. been be noddoton ko wonah Alla - e annabaabe e mobyyube - been hobe balloroo faade Alla hobe njoortoo yurmeende makko, hobe kula lepte makko, ko hono be noddirtee ko wonah Alla.

E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leyde wollo boom e rennda aade en fof na seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowu mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be ñaawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.

E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leyde wollo boom e rennda aade en fof na

seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowo mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be nyaawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.

Sabu duum noddumaami aan nebbe nde ndarantada Alla ndarnde goondunde boliinde ñeemtinde e aada, anndu aan caggal maayde ma a rutta faade e Joom ma,ndaar hoore ma e jookli hedde ma, jebbila kisa aduna ma e laakara ma,si a faalaama naatde islaam alah ko fawii e ma si wonah seedaade alah deweteedo e goongo si wonah Alla e Muhamed ko Nulaado, e nde kisataa kala kala ko rewetee si wonah Alla, goondinen ma Alla yaltin wonbe to genaale, goondinaa hasboore e njobdi ko goongo,si a seediima dii seedeji a wontii juuldo,oon tuma noon fawiiwo ma nde ndewataa Allano sariya ardiri nih hono juulde,askal,koorko e hajju si ana hattani.

Ko dum wafi mbeda noddu ma aan aade nde ndarotada sabu Alla accaa ñeemtinde e aada, hono no Alla noddir ma, O daali:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنَّانٌ ۖ وَأَنْ تَكُونُوا مِنْ سَابِقَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا﴾ [سبأ: 46]

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنَّانٌ ۖ وَأَنْ تَكُونُوا مِنْ سَابِقَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا﴾ [سبأ: 46]

(Maaku pellet mi waajoto mon e gootel nde ndaranatodon Alla dido e gooto gooto refti miiccadon,kaadi ngalah e gondiijo mon hee,ko O jeertinoowo mon tan na e yeesa mum lepte cattude.) Sabaa (46). Anndu aan ko a ruttto e Joom ma, Alla daali:

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۚ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: 39-42]

[النجم: 39-42]

(Aade alah si wonah ko yahani. (39) Yaama yahdu mum ndu yi*ee (40)) Refti o yobee mbo njɓdi burndi timmude (41) Ko faade Joom ma woni haattirde (42)) Annajmi 39-42. Nde ndaarata e hoore ma e jookli sera ma, Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

[الأعراف: 185]

(Mbela be ndaaraani nguu laamu teddngu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta.) Al Aaraaf 185. Jebbila maleda aduna ma e laakara ma, si a faalaama naatde e Islaam,alah ko fawii e maa si wonah seedaade deweteedo alah si wonah Alla gooto, Muhamed yo jam e kisal won e mum ko Nulaado Alla tigi.Tumo nde Nulaado nulnoo Mu*aaj faade Yaman ngam o nodd faade e Islaam,o maaki: Pellet ma a ar e yimbe joman en defte, noddube faade e seedaade alah deweteedo e ngoonga si wonah Alla, Miin komi Nulaado Alla tigi, sibe doftiima ma e duum anndibe farlaama e mum en juuldee joy kala ñalawma e kala jemma, sibe doftiima ma e duum

anndibe Alla fawii e mum en askal ummaade e jawle mum en ngal nanng e aldube mabbe tottee waasbe, sibe doftiimo ma e duum reento jawle mum en burde teddude, reento noddugol toonyaado sabu heedo alah hakkunde nduun noddaandu e Alla. Sahiih Muslim 19.Nde kisataa e kala ko rewetee ko wonah Alla, hisde e kala ko rewetee ko wonah Alla, woni laawol Annabi Ibraahiima peewngol, Alla daali:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءٌ وَأَمْنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ...﴾ [الممتحنة: 4]

(Wonanii on e Ibraahiima ñeemtanirgal labangal e bee be o wondi tumo ndebe wii yimbe mum en pellet min kisii e mon e koon ko ndewaton ko wonah Alla,min njeddii mon,gañandiral banngii hakkunde amen e mon pooma haa ngoondinon Alla kanko tan.) Al Mumtahina 4. Goondinde Alla umminat wonbe nder baamuule, Alla daali:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ] [الحج: 6-7]

(Sabu ko Alla woni goongo, pellet ko Kanko woni guurtinoowo maaybe, ko Kanko woni kattando kala huunde. 6. Pellet darngo koko arata sikke alah heen, pellet Alla umminat wonbe e genaale. 7.) Al Hajji 6-7. Hasboore e njobdi ko goono, Alla daali:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْوَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 22]

(Alla tagiri kammuuji e leydi goongo e haa yobee kala fittaandu ko ndu faggitii ko, kambe be tooñetaake.) Al Jaasiya 22.

Si a seediima ndu seedanfaagu ngonaa juuldo, fawama e ma rewruude Alla ko O sar*ini ko e juulde, askal koorko e hajju wonande baawfo .